

تفسير

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

مُؤَلَّف

جَلالُ الدِّينِ القاسِمِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ  
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ  
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی  
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے  
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ [KitaboSunnat@gmail.com](mailto:KitaboSunnat@gmail.com)

🌐 [www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ



مؤلف



جلال الدین القاسمی

# فہرست سورہ اِخْلَاص

۳۴ - ۳۶	لفظ احد سے شہوتِ کارد، تعدد فی الالوہیت
۴۰، ۴۱	تفسیر الصمد، اشتقاق کی توضیح،
۴۳، ۴۶	الصمد سے الوہیت مسیحِ کارد، ولادت کے معنی
۴۹	حیوان متولد اور حیوان متوالد
۵۳	خروج کلام کی تصریح
۵۳	ابنیت اور مولودیتِ کارد
۵۵، ۵۸	ولم یکن لہ کفواً، خدا کی تین بڑی صفتیں
۶۳	جسم باری تعالیٰ پر بحث
۶۷	انا و نحن کی بحث
۶۹	حلول و اتحاد اور تصور اوتارِ کارد
۷۲	استواء علی عرش
۷۸	رویت باری
۸۰	توحید اور شرک
۸۱، ۸۲	قرآن معلم التوحید ہے، لیس کمثلہ شیء
۸۷، ۹۱	امکان کذبِ باری تعالیٰ، معطلہ اور مشبہہ کارد
۹۳، ۹۹	وجود باری پر بحث، خلاصہ سورہ اِخْلَاص

صفحہ	مضامین
۳	انتساب
۴	تقریظ مولانا محمد امین صاحب ریاضی
۶	تقریظ مولانا نیاز احمد حسرت علی
۸	پیش لفظ
۱۱	تمہید سورہ اِخْلَاص
۱۲	اِخْلَاص فی العقیدہ
۱۳	اِخْلَاص فی العمل
۱۶	شان نزول سورہ اِخْلَاص
۱۸	فضیلت سورہ اِخْلَاص
۲۳	قل کا مفہوم
۲۴	هو کا مطلب
۲۶	تعقل اور تصور کی تفصیل
۲۷	اللہ
۳۳	اسماء و صفات
۳۴	احد اور واحد میں فرق

الحمد لولیه والصلوة والسلام علی نبیہ  
 آج تفسیر سورہ اِخْلَاص کے مسودہ کا جستہ جستہ بغور  
 مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا جو نوجوان حضرت مولانا جلال الدین  
 قاسمی کے علمی و قلمی شاہکار کا بیش بہا خزانہ ہے۔  
 یوں تو بہتوں نے سورہ اِخْلَاص کی تفسیریں کی ہیں مگر مولانا  
 موصوف نے جس انوکھے و اچھوتے انداز میں آیات کے ہر  
 ٹکڑے کی علمی و فکری تشریح کی ہے اسے پڑھ کر مولانا  
 موصوف کے وسعت مطالعہ محنت و لگن کا بخوبی اندازہ  
 ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو جو صفات اس سورہ میں  
 موجود ہیں اس کے معانی بیان کرنے میں جس جذب و  
 مستی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ مولانا موصوف ہی کا حصہ  
 ہے مولانا کی نظر بڑی وسیع اور دقیق ہے۔ مولانا موصوف  
 چار پانچ سال تک پابہ رائے گڈھ علاقہ کوکن میں خطابت  
 کے فرائض انجام دے چکے ہیں

مولانا کا خطبہ سننے کے لئے لوگ دور دور سے خیرانی روڈ اہلحدیث

## انتساب

حضرت علامہ ابن تیمیہ و حضرت علامہ محمد  
 ابن عبد الوہاب نجدی رحمہما اللہ جیسے ان تمام  
 غیور موحدین کے نام  
 جو توحید کے مقدس دامن پر شرک و  
 بدعت کی ذرہ برابر بھی آلودگی دیکھنا گوارا  
 نہیں کرتے

نام کتاب - - - - تفسیر سورہ اِخْلَاص  
 مولف - - - - مولانا جلال الدین صاحب القاسمی  
 ناشر - - - - مولانا جلال الدین صاحب القاسمی  
 کاتب - - - - نیاز خان سلفی  
 صفحات - - - - ۱۰۰/  
 اشاعت بارہ اول ایک ہزار اکتوبر ۱۹۹۴ء  
 قیمت - - - - -

مسجد میں آتے ہیں کیونکہ خطابت کا انداز ہی کچھ اور ہے جو دوسروں میں کم ہی مل پائیگا۔

قاسمی صاحب کی تصنیفی میدان میں غالباً یہ پہلی کوشش ہے جسکی زبان نہایت سادہ عام فہم ہے ادب و انشاء کی چاشنی سے بھر پور ہے۔

مجھے امید ہے علماء طلباء عوام و خواص اس کتاب کو پڑھ کر استفادہ کر کے مصنف کے حق میں ضرور دعائے خیر کریں گے میں تمام اہل علم سے اپیل کرتا ہوں کہ قاسمی صاحب کے منطقی استدلال اور جدید طرز تحقیق سے بھر پور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں

اللہ تعالیٰ اس کتاب (تفسیر سورہ اخلاص) کے مصنف و معاونین و محسنین کے حسنات کو قبول فرمائے آمین۔

محمد امین ریاضی

امین عام صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامداً و مصلياً اما بعد

زیر نظر کتاب "تفسیر سورہ اخلاص" ہمارے فاضل دوست جناب مولانا جلال الدین القاسمی صاحب کی طرف سے میدان تفسیر میں ایک انوکھا قدم ہے۔ تبحر علمی و دقیقہ رسی، و دقیقہ سنجی کے لحاظ سے قارئین کے لئے انمول رتن ہے۔ باطل عقائد جیسے تثلیث و مسئلہ حلول اور مشرکین و کافرن کے خرمین ضلالت پر رعد و برق ہے۔ عقل سلیم و ذوق علمی نیز جملہ اولوالالباب کے لئے برہان و نور مبین ہے۔ تحریر میں زور ہے، انداز بے باکانہ ہے۔ نتائج منطقیانہ و فلسفیانہ ہیں مگر منہج علماء سلف سے ہٹ کر نہیں۔ تحریر فصاحت و بلاغت سے پُر، معانی و بدیع سے لبریز، تمثیلات و تشبیہات کی آئینہ دار ہے۔ یہ یہ تفسیر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ یقیناً بلاریب و منون اللہ احد ہے۔ اللہ صمد ہے۔ نیز جب آپ

## پیش لفظ

اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے رب مانو اور مجھے معبود مان کر اپنی جبین نیاز کے سارے سجدے میرے آستان کے لئے مخصوص کر دو بلکہ کرات کرات عنوانات اور اسالیب بدل بدل کر مثالیں دے دیکر یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہوں، کائنات کی تمام مخلوق میری محتاج ہے اور ہر کوئی میرے در کا بھکاری ہے، نیز مجھ جیسا کوئی نہیں، اور میری خدائی میں کوئی شریک نہیں۔

اسی عقیدے کا نام توحید ہے یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد ایمان، اسلام، اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ ایمان و اسلام کی بنیاد توحید ہی ہے اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ خدا نخواستہ مجروح ہو گیا تو پھر ایمان و اسلام، عبادات و تقویٰ سب کے سب عند اللہ نامعتبر قرار پاتے ہیں۔  
تمام انبیائے کرام کی بعثت کی غرض و غایت یہی تھی کہ انسانوں

یہ کتاب بند کریں گے تو آپ کے دل پر یہ نقش ہو چکا ہوگا کہ بیس کلمہ شیبیء و هو السميع البصیر“ جس طرح غواص سمندر کی گہرائیوں سے موتی حاصل کرتا ہے بالکل اسی طرح آپ موصوف کے فکری بحر بیکراں سے صرف اور صرف توحید کے موتی حاصل کریں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے موحد دوست کی طرف سے پیش کی گئی اس سعی جمیل کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔

نیاز احمد حسرت علی گورکھپوری،  
وکیل الجمعیتہ المحمدیہ و توابعہا،  
شارع جروا تلسی پور، غونڈہ

کے سامنے اس عقیدہ کو پہلے پیش کریں چنانچہ یہ نفوس قدسیہ اپنی بعثت سے لیکر تادم واپس توحید ہی کا درس دینا کو دیتے رہے، توحید ہی ان کی دعوت و تبلیغ کا نقطہ آغاز تھا، نقطہ وسط بھی اور نقطہ اختتام بھی۔

دین میں توحید کی اسی اہمیت اور مقام و مرتبہ کی وجہ سے اللہ نے ایک مکمل سورہ، سورہ اٰخلاص کے نام سے نازل فرمائی جس میں توحید خالص سے بحث کی گئی ہے اس سورہ کا انداز انتہائی سلیس، واضح، آسان اور عام فہم ہے۔ اختصار کے ساتھ ساتھ کمال جامعیت موجود ہے اس مضمون کو علیحدہ ایک سورت میں انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ معمولی ذہن رکھنے والے آدمی کے لئے بھی اسے حرز جان بنانے میں کوئی دشواری نہ ہو اس سورہ کریمہ کی تفسیر متعدد علماء نے کی ہے اور ان میں سے عمدہ تفسیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی "تفسیر سورۃ اٰخلاص" ہے درحقیقت حضرت نور اللہ مرقدہ کی یہ کتاب خزینہ اسرار و حکم اور گنجینہ علوم و معارف ہے مگر چونکہ یہ کتاب عربی میں ہے اس لئے اس کے مضامین تک عوام کی رسائی نہیں ہو سکتی لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ

ایسی ایک کتاب مرتب کروں جس میں اس سورہ کریمہ کے متعلق لکھی گئی بہت سی تفاسیر کے اہم اجزاء جمع ہو جائیں۔ اس کتاب کی ترتیب میں میں نے بہت محنت کی ہے۔ علمی فرومانگی کے ساتھ ساتھ مراجع کی کمیابی کا احساس بھی برابر دامن گیر رہا ہے۔

کتاب غلطیوں اور نقائص سے پاک ہے اس کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا کیونکہ غلطیوں اور نقائص سے مبرا صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہے

جلال الدین القاسمی

۲۲ ستمبر ۱۹۹۲ء مطابق ۱۵ ربیع الآخر ۱۴۱۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

ترجمہ: کہہ کہ وہ اللہ احد ہے۔ اللہ صمد ہے۔ نہ وہ والد (باپ) ہے۔ نہ وہ مولود (بیٹا) ہے نہ کوئی اس کی برابر کا۔

منظوم ترجمہ: تم کہد و اے محمد میرا خدا ہے یکتا

ہے بے نیاز سب سے بیٹی نہ اس کا بیٹا

ماں باپ بھی نہ اس کے ہمسر نہ کوئی اسکا

جس طرح سے ہر ایک کام کی ایک غرض اور انتہا ہوتی ہے جس پر وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی انتہا محبت الہی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلّٰهِ ۝ وَ اور جو مومن ہیں اللہ سے ان کی قوی محبت ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا لب لباب ہی

احد۔۔ یکتا، سب سے نرالا، بے ہمہ

صمد۔۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، باہمہ، سب کا عملی و مادی

تھا۔ اور جس طرح ایمان کی غایت محبت الہی ہے۔ اسی طرح محبت کی جان اخلاص ہے۔ تمام طاعات و عبادات بغیر اخلاص عند اللہ نامعتبر ہیں۔ حتیٰ کہ ایمان و عقیدہ میں اگر اخلاص نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے۔ اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے

اخلاص سے نا آشنا ہر چیز ہے فتنہ  
لہذا نہ کی جائے تو تکفیر ہے فتنہ

## اخلاص فی العقیدہ

اخلاص کا معنی:۔ متولی الشعر اوی اپنی مشہور کتاب ”عقیدۃ المسلم“ میں لکھتے ہیں: الاخلاص انما كانت هناك امور مشتبکة، وانت تخلص بعضها من بعض یعنی بہت سی چیزیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں اور آپ ان میں سے بعض چیز کو نکال کر الگ کر لیں۔ آپ کے اس الگ کرنے کے عمل کو اخلاص کہینگے۔

اخلاص کے اس مفہوم کی روشنی میں دیکھئے کہ لوگوں نے اپنی جہالت اور کج فکری کی وجہ سے حقیقی الہ واحد کے علاوہ اور بہت سے باطل الہ گھڑ لئے جس سے الوہیت کے مسئلے میں اشتراک

ہو گیا۔ اب اگر حقیقی الہ کو باطل الہ سے الگ کر لیا جائے تو اس کو اخلاص فی العقیدہ کہیں گے۔

## عمل میں حقیقی اخلاص

معلوم ہونا چاہئے کہ شیء میں ملاوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ جب ملاوٹ سے پاک و صاف ہو تو کہتے ہیں خالص ہے اور اس فعل کو اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنِّي فِي الْأَنْعَامِ لَعَابِرَةٌ ۖ وَرِجَاسٌ فِي مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ  
 وَأَن تَكُونَ مِمَّنْ يَدْعُوا لِلدُّنْيَا نِسْيًا وَاللَّيْلِ نِسْيًا  
 وَأَن تَكُونَ مِمَّنْ يَدْعُوا لِلدُّنْيَا نِسْيًا وَاللَّيْلِ نِسْيًا  
 خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّرِّ بَيْنَ خَالِصٍ وَرِجَاسٍ ۚ وَرِجَاسٌ فِي مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ  
 لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَيَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

لئے دیتے ہیں۔

اسی طرح جب عمل ریا سے خالص ہو جائے تو اللہ کے لئے ہو جاتا ہے۔ ابو عبد اللہ الباجی الزاهد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمل کے پورا ہونے کے لئے پانچ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے (۱) اللہ کی معرفت پر یقین (۲) معرفت حق (۳) عمل سنت کے مطابق کرنا۔ (۴) حلال روزی کھانا۔

ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو عمل پورا نہیں ہوگا

مثلاً۔ آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ مگر حق کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اس سے آپ کو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر آپ نے حق کی معرفت حاصل کر لی مگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اس سے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ اور حق کی بھی معرفت حاصل کر لی مگر عمل میں اخلاص پیدا نہیں کیا تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ نے معرفت خداوندی اور معرفت حق کے ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص بھی پیدا کر لیا۔ لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں کیا تو اس عمل سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر چاروں مذکورہ باتیں آپ نے پوری کر لیں مگر آپ نے حلال روزی نہیں کھائی تو اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

فضیل نے اللہ تعالیٰ کے اس قول لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں احسن عملاً کی تفسیر اخلاص عملاً و اصواب عملاً سے کی ہے۔ یعنی عمل کی صحت اور اس کے مقبول عند اللہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خالص کے ساتھ ساتھ صواب بھی ہو۔ فرماتے ہیں خالص وہ ہے جو فقط اللہ کی رضا جوئی کیلئے ہو، اور صواب وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول بھلا بتائیے کہ ایک آدمی مال اور شہرت کی خاطر لڑنے گیا تو اس کے لئے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، اس نے تین مرتبہ پوچھا ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور کچھ نہیں، پھر فرمایا کہ اللہ صرف اسی عمل کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے جو اسی کے لئے خالص ہو اور اس عمل سے اس کی رضا جوئی مقصود ہو۔ (خرج نسائی باسنادر جید)

یہ حقیقت تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ دین میں اخلاص کس قدر ضروری ہے یہاں کسی باطل کی ذرا بھی آمیزش سم قاتل سے زیادہ خطرناک ہے اب اس خاص مسئلہ محبت الہی کو دیکھو اس میں سب سے زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ محبت الہی میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ بہت سی دوسری چیزوں کی محبت دل میں ہونا قدرتی بات ہے۔ مثلاً والدین، بیوی بچے، اعزہ و اقارب مال و دولت، جاہ و حشمت سب چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ لیکن جو چیز مطلوب ہے۔ وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے پائے کہ اللہ کی فرماں برداری اور اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے

أَذْكُرُ وَاللَّهُ كَذِكرِكُمْ ۗ تَمَّ اللَّهُ كَوَاسِطِ حِجْرٍ وَجِلْسِ  
أَبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ أَيْنَ بَاطُونَ كَوَيَادِ كَرْتِ هُوَ بِلَكِّهٖ اِس  
سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔

دیکھو اس آیت میں محبت الہی کو ادا کرنا تھا تو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپوں کو یاد نہ کرو۔ یہاں اللہ نے اپنی محبت اور باپ کی محبت کو باہم مشبہ اور مشبہ بہ قرار دیا اس سے ظاہر یہ ہوا کہ باپوں سے بھی محبت رکھو مگر اللہ کے مقابلہ میں اس محبت کو بالکل کم تر اور پانچ سمجھو۔

## سورہ اخلاص کا شان نزول

ابو جعفر رازی نے یہ حدیث ربیع بن انس اور انہوں نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بتاؤ اس پر اللہ نے قل هو اللہ احدہ اللہ الصمدہ کی سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ (طبرانی) عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا

۱۷  
ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر بھی اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی

(ابن ابی حاتم، ابن عدی بیہقی فی الاسماء والصفات) ضحاک اور قتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضورؐ کے پاس آئے اور کہا اے محمدؐ ہمیں اپنے رب کی کیفیت بتائیے۔ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفت توراہ میں نازل کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ کس چیز کا بنا ہے؟ کس جنس سے ہے؟ سونے کا بنا ہے یا تانبے سے یا پتیل سے یا لوہے سے، یا چاندی سے، اور وہ کیا کھاتا پیتا ہے۔ اور کس سے اس نے کائنات کی میراث حاصل کی ہو؟ اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا؟ اس پر بھی اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ (تفسیر سورہ اخلاص ابن تیمیہ)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور

۱۸  
کیفیت دریافت کی تھی، جس کی عبادت کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اور ہر موقع پر آپ نے اللہ کے حکم سے یہی سورہ سنائی۔ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی یہودیوں نے کبھی عیسائیوں نے اسی طرح کے سوالات کئے۔ پس صحیح بات یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔

## فضیلت سورہ اخلاص

بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مفسرین نے اس ارشاد کی مختلف توجیہات کی ہیں مگر سیدھی اور صاف توجیہ یہ ہے کہ قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد توحید رسالت اور آخرت پر ہے، یہ سورت چونکہ خالص توحید بیان کرتی ہے۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ یہ سورہ اگرچہ قرآن حکیم کی ایک مختصر سورہ ہے مگر علوم و معارف کا گنجینہ ہے۔ اس کے ہر لفظ کی گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو ہر طرف اسرار و معانی کا سمندر

نہیں ہو سکتا۔ بلکہ من گھڑت عقیدہ ہے پھر پادری نے ایک دن یہ بتایا کہ عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اور یہ قربانی انہوں نے اس لئے دی تھی تاکہ ان کے پیروؤں کے اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیونکہ میں ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جس نے عیسائیوں کی نجات کا ایسا سستا اور عجیب و غریب راستہ بتایا ہو کہ ایک پیغمبر کے سولی پر چڑھ جانے سے اس کی پوری امت کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور پوری امت کو ہر قسم کے گناہ کرنے کی کامل آزادی مل جائے۔ پھر یہ بات تو کسی طرح بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ بزرگ و بڑا ہوتے ہوئے اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنالے بلکہ اسے دنیاوی جھگڑوں سے بلند ہونا چاہئے۔ انہیں اسباب کی بنا پر میرا دل کا ایسا اور پادریوں کی تعلیم سے متنفر ہو گیا۔ اسکے بعد میں نے حقیقت کی تلاش کی غرض سے توریت کا مطالعہ شروع کیا اسے ختم کرنے کے بعد بدھ مت پر لکھی گئی ہر دستیاب کتاب بڑھ ڈالی۔ اسلامی کتابوں کا مطالعہ اس لئے میں نے نہیں کیا کیونکہ اسلام کے خلاف پادریوں کی زہر افشانی کی وجہ سے میں بچپن ہی سے اس مذہب کو

ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف یہ سورہ دین اسلام کی روح و مغز یعنی توحید کا محکم انداز میں اثبات کرتی ہے۔ تو دوسری طرف دنیا کے تمام عقائد باطلہ اور فرق ضالہ کا رد سلجھے ہوئے انداز میں کرتی ہے۔ اس سورہ کہ یہ کی معجز نمائی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اسی ایک سورہ نے ایک جرمن مفکر مسٹر رابرٹ برنٹ کے دل کی دنیا بدل دی اور انہوں نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا اپنے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں جو تفصیلات مسٹر رابرٹ برنٹ نے بیان کی وہ یہ ہیں۔ میں ایک جرمن نو مسلم ہوں جب جب میری عمر دس سال کی ہوئی، تو جرمن پروٹسٹنٹ فرقے کی روایات کے مطابق مجھے کلیسا میں داخل کر دیا گیا۔ پادری نے جب مجھے مقدس تثلیث کا مطلب سمجھایا تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور روح القدس بظاہر علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر دراصل یہ ایک ہی چیز کی تین صورتیں ہیں یہ بتا میرے حلق سے نہیں اترتی کیونکہ علم ہندسہ کا معمولی طالب علم بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک ایک ہے اور تین تین، آپ ہزار کوشش کریں مگر ایک کو تین اور تین کو ایک ثابت نہیں کر سکتے۔ دل نے وہی کہہ دیا کہ یہ عقیدہ الہا

قابل اعتناء نہیں سمجھتا تھا۔ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ میں کائنات کے خالق اور تخلیق کائنات کی حقیقت سمجھ لوں۔ میں یہ معلوم کر لوں کہ زمین پر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں تلاش حق میں کتابوں کا کیڑا بن گیا۔ بڑے بڑے مصنفین و مفکرین کی کتابیں بڑھت رہا اس حالت میں پورے چودہ سال گزر گئے اور تلاش حق اور تلاش حقیقت کی دھن آگ کی طرح میرے سینے میں سلگتی رہی۔

عجیب بات ہے کہ جب میں نے حوصلہ چھوڑ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں خواہ لاکھ کوشش کروں حقیقت کا سراغ مجھے نہیں مل سکتا۔ اسی وقت اللہ نے مجھ پر اپنا خاص فضل و کرم کیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو میرے تھک ہار کر بیٹھ جانے پر ترس آ گیا اس نے صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی اس طرح کی کہ اتفاق سے ایک ایسے جرمن جہاز راں سے میری ملاقات ہو گئی جسے مشرق کے تمام ممالک کے دیکھنے کا موقع ملا تھا اور لطف کی بات یہ کہ وہ خود بھی مسلمان نہیں تھا۔ بلکہ وہ ایک عیسائی تھا۔ مگر مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے عقائد اور ان کے طرز تمدن سے متاثر تھا اسلام کے بارے میں اپنی معلومات اس کے میرے اوپر بٹھانے کے لئے اس نے سورہ اخلاص کا

متن اور ترجمہ مجھے دکھایا جب میں نے اس ترجمہ کو پڑھا تو دنگ رہ گیا وہی چیز جو میں ساری عمر تلاش کرتا رہا تھا قرآن کی اس چھوٹی سی سورہ میں موجود تھی۔ چودہ سال سے جس راہ کی تلاش میں بھٹک رہا تھا وہ مل گئی۔ پھر میں نے اسلام کا کافی مطالعہ کیا۔ اس کے بعد قاہرہ چلا گیا تاکہ وہاں مسلمانوں کے درمیان اسلام کا مطالعہ کروں۔ جب میں جامعہ ازہر سے نکلا تو دوسرا انسان تھا

اب

تبلیغ اسلام میری زندگی کا مقصد اولین ہے۔  
بخاری کتاب التوحید میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا شکر کہیں بھیجا جب وہ پلٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جس شخص کو ہمارا کمانڈر اور سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمہ پر قل هو اللہ احد کی سورہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ رحمن کی صفت ہے۔ مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر کر دو کہ خدا بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ میں

ایک روایت اسی قسم کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انصاری مسجد قبا کے امام تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اکھبر اللہ ختم کرنے کے بعد اس سورہ اخلاص کو پڑھتے اس کے بعد پھر جو نسی سورہ پڑھنی ہوتی وہ پڑھتے تھے۔ متقدموں نے پوچھا تو کہا اسی طرح میں کرتا رہوں گا، چاہے مجھے امام رکھو یا نہ رکھو۔ لوگوں نے یہ واقعہ نبی کریم ﷺ سے بیان کیا تو آپ نے امام سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھاتے وقت بسم اللہ بھول جائے۔ (اور کھانا کھاتے وقت یاد نہ آئے) توجیب بھی یاد آئے، اسے قل هو اللہ پڑھ لینا چاہئے (رواہ ابن السنی)

## قل کا مفہوم

قل کے معنی ہیں ”کہہ تو“ یہ قال یقول سے امر ہے جس کے معنی ہیں ”کہنا“ مگر اس کا وہی مطلب ہے جو قل یا یہاں الکفر ون میں ہے۔ یعنی اعلان کردو۔ منادی کردو۔ بر ملا کہو کیونکہ سورہ کافرون کا مضمون اعلان ہی کا تقاضہ کر رہا تھا۔ تاکہ مفسدین اور ائمہ کفر جو کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتے کے

خطبہ میں بتلاتے وہ اپنی سعی نامراد سے مایوس ہو جائیں اور سیدھے سادے قسم کے لوگ جو اس طرح کے سمجھوتے کو امن پسندی سمجھ رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ امن پسندی اور صلح و آشتی کا راستہ نہیں بلکہ فساد اور کجی کی مستقل نشوونما کا راستہ ہے۔ اس طرح کے اعلان کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب مباحثے اور مناظرے کا پورا دور گزر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سمجھانے کا حق ادا ہو چکا ہے۔ اب جو لوگ مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ بات کو الجھانے اور طول دینے کے لئے اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے موقع پر مناسب یہ ہوتا ہے کہ بات دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں اس طرح کہدی جائے کہ مخاطب اندازہ کر لے کہ متکلم کو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ اب وہ اپنا وقت مزید ضائع کرنے کے لئے نہ تیار ہے اور نہ اس کے موقف میں ذرہ برابر کسی تبدیلی اور لچک کی گنجائش ہے۔

(ماخوذ از تدبر القرآن)

## هُوَ کا مطلب

هُوَ کا معنی ہے ”وہ“ یہ ضمیر شان ہے جس کا مرجع متعین ہوتا ہے۔ جب مطلقاً هُوَ بولا جائے گا تو اس سے وہی مراد ہوگا، جس کی شان ہر چیز سے ہویدا ہے۔ وہ؛ کون وہ ۱۹۰۵ ارے

۲۵  
 وہی جسکا پتہ کائنات کی ہر شے کو معلوم ہے۔ دریاؤں  
 کی روانی سے پوچھ لو۔ سمندروں کی طغیانی سے پوچھ لو۔ آسمانوں  
 کی بلندی سے پوچھ لو۔ یازمین کی پستی سے پوچھ لو، پہاڑوں  
 کے جلال سے پوچھ لو۔ درختوں کے جمال سے پوچھ لو۔ دن  
 کی روشنی سے پوچھ لو، رات کی تاریکی سے پوچھ لو۔ سورج کی  
 کرنوں سے پوچھ لو۔ کواکب کی چشمک سے پوچھ لو۔ عصافیر  
 کی چہک سے پوچھ لو۔ سبزیوں کی لہک سے پوچھ لو، کلبوں  
 کی چٹک سے پوچھ لو۔ بھولوں کی مہک سے پوچھ لو۔ ابر کے  
 دھمک سے پوچھ لو، زندگی کی ہمک سے پوچھ لو۔ لہروں کی  
 لچک سے پوچھ لو۔ عینوں کے تبسم سے پوچھ لو۔ عنادل کے معصوم  
 شور سے پوچھ لو۔ کرنوں کی جگمگاہٹ سے پوچھ لو۔ حسین صبح  
 کی انگرہائیوں سے پوچھ لو۔ پتوں کی سرسراہٹ سے پوچھ لو۔  
 گلشن و خیاباں سے پوچھ لو۔ کہسار و بیابان سے پوچھ لو۔ صحرا  
 کے سنائے سے پوچھ لو۔ آبادی کے ہنگامے سے پوچھ لو۔

کل الی ذالک الجمال یشیر  
 وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهَا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ  
 تَسْبِيحَهُمْ  
 لفظ ہو سے اس سورہ میں منکر وجود باری کا ابطال کیا گیا

۲۶  
 ہے کیونکہ یہ لفظ ذات پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی وہ ہستی  
 جسے قرآن اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ فی الحقیقت موجود ہے اس  
 کا وجود مستقل اور حقیقی ہے، وہی یا خیالی نہیں ہے۔  
 متولی الشعرانی نے اپنی کتاب ”عقیدۃ المسلم“ میں یہ دعویٰ کیا  
 ہے کہ قرآن نے اللہ کے وجود پر دلیل نہیں پیش کی ہے۔ کیونکہ  
 دلیل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں مسئلہ نظری ہو۔ لیکن  
 اللہ کے وجود کا معاملہ بدیہی فطری اور وجدانی ہے فلاسفہ  
 اور مفکرین جنہوں نے اللہ کے وجود پر دلیلین وضع کی ہیں۔  
 انہوں نے تعقل اور تصور کو غلط ملط کر دیا انہوں نے تعقل  
 کو تصور بنا دیا اور تصور کو تعقل بنا دیا  
 خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد  
 جو چاہے آپکا حسن کرشمہ ساز کرے

## تعقل اور تصور کی تفصیل

تعقل یہ ہے کہ عقل حکم لگائے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی  
 قوت ہے۔ مثلاً چند آدمی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور دروازہ  
 بند ہے۔ اچانک دروازہ کی گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کمرے  
 کے تمام آدمی دروازے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور کسی کو یہ

انکار کرنے کی مجال نہیں کہ دروازے پر کوئی موجود نہیں بلکہ سب کو یقین ہے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے یہ تعقل ہے۔ اب ان میں یہ بات ہونے لگتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ کوئی کہتا ہے مرد ہے۔ کوئی کہتا ہے عورت۔ کوئی کہتا ہے چھوٹا ہے۔ کوئی کہتا ہے بڑا ہے۔ کوئی کہتا ہے گندم گوں ہے تو کوئی کہتا ہے کالا ہے کوئی کہتا ہے گورا ہے۔ کوئی کہتا ہے بشیر ہے کوئی کہتا ہے نذیر ہے۔ یہ اختلاف ظاہر ہے کہ تصور میں ہے نہ کہ تعقل میں

## اللہ

یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ لیکن ان میں لفظ جلالت اللہ اسم ذات ہے اور باقی اسماء صفات ہیں یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا اور اگر کوئی ایک زبان بھی "اللہ" "اللہ" کہنے والی باقی نہ رہی تو بساط عالم کو لپیٹ دیا جائیگا آسمان کی قندیلیں بجھادی جائیں گی، زندگی کے دل بھانپو الے سارے نظارے ختم کر دئے جائیں گے۔۔۔ یہ نام ایسا مبارک اور بامعنی

ہے کہ اگر اس میں کوئی گمراہی بھی دیا جائے تو بھی اس کا معنوی حسن برقرار رہتا ہے۔ مثلاً شروع سے الف گمراہی دیا جائے تو اللہ رہ جائے گا۔ یعنی اللہ کے لئے۔ قرآن میں ہے: **لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** اور اگر لام گمراہی تو "الہ" رہ جائے گا قرآن میں ہے **وَ اِلٰهِيْكُمْ اِلٰهٌ وَّ اٰحِدٌ** اور اگر الف لام دونوں کو حذف کر دیں تو **لہ** رہ جائے گا جس کا معنی ہے "اس کے لئے" اور اگر لام کو بھی حذف کر دیں تو "لہ" رہ جائے گا جس کا متعین مزج اللہ کی ذات کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟

پورے قرآن میں اسم جلالت اللہ تقریباً دو ہزار نو سو تیس مرتبہ آیا ہے نزول قرآن سے قبل عربی زبان میں خالق کائنات کے لئے جو لفظ مستعمل تھا وہ اللہ تھا جسے لفظ الہ پر الف لام تعریف کا داخل کر کے "اللہ" اسم علم بنا لیا گیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے مشہور رسالہ "العبودیت" میں الہ کا مفہوم یہ بتایا ہے۔

الہ وہ ہے جس کی طرف دل کا میلان کمال محبت اور نہایت تعظیم و احترام و اکرام خوف و درجا اور اس طرح کی دیگر کیفیتوں کے ساتھ ہو، (لسان العرب ج ۱، ص ۳۶ میں ہے) **وَلَا يَكُوْنُ اِلٰهٌ حَتّٰى يَكُوْنَ مَعْبُوْدًا** وحتیٰ یكون لعابدا

خالق اور رازق و مدبر اور علیہ مقتدرًا فمن لم یکن  
کذا لک فلیس بالذوات عبد ظلما بل هو مخلوق  
ومتعبد - کسی ہستی کو صرف اس وقت الہ کہہ سکتے ہیں  
کہ وہ معبود ہے اور معبود ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ عابد  
کا خالق ہو۔ رازق و مدبر ہو اور ساتھ ہی اس پر تصرف کا  
اختیار بھی رکھتا ہو جو ایسا نہ ہو وہ الہ کہلانے کا مستحق  
نہیں ہو سکتا خواہ وہ ظلم و جبر سے پوجا ہی جائے۔ وہ ہر  
حال میں مخلوق و مطیع ہی ہوگا

لسان العرب کے اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ الہ ہی معبود  
ہو سکتا ہے۔ معبود یہ ماخوذ ہے عبادت سے جس کا مطلب ہے  
کسی کے سامنے اپنے اختیار انتہا درجہ کی عاجزی و انکساری  
سے پیش آنا اور یہ حالت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک  
اس ہستی کی انتہا درجہ کی عظمت و جلالت اور تقدس کا قائل  
نہ ہو جائے۔ عابد کو دو ہی چیزیں عبادت پر مجبور کرتی ہیں  
۱۔ کمال عظمت ۲۔ کمال محبت۔ اب یہ امر وضاحت طلب  
ہے کہ کمال عظمت و محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تو واضح  
رہے کہ یہ عقیدہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ۱۔ علم کامل ما  
فوق الاسباب۔ ۲۔ قدرت کامل ما فوق الاسباب۔ ہمارا علم

ما تحت الاسباب ہے۔ کیونکہ ہمارا علم سننے کا چھونے کا چکھنے  
سونگھنے کا محتاج ہے اس لئے علم ناقص ہے کامل نہیں۔ اسی  
طرح ہماری قدرت بھی ما تحت الاسباب ہے۔ مثلاً اگر ہاتھ  
نہ ہوں تو کام نہیں کر سکتے۔ دماغ درست نہ ہو تو کام درست  
نہیں کر سکتے پاؤں نہ ہوں تو چل پھر نہیں سکتے۔

مگر اللہ کا علم کامل ما فوق الاسباب اور اس کی قدرت کامل  
ما فوق الاسباب ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے  
اعتقاد میں یہ ہوتا ہے کہ میں جس ذات کو پکارتا ہوں اسے  
میرے دکھ درد کا علم ہے اور اسے یہ بھی علم ہے کہ مجھے فلاں  
جگہ سے فلاں بندہ پکارتا ہے یہ علم کامل ہے۔

دوسری چیز بندہ کے اعتقاد میں یہ ہوتی ہے کہ میں جس ذات  
کو پکارتا ہوں اسے قدرت و طاقت ہے کہ بغیر کسی سبب کے  
میری مشکلات آسان کر دے۔ جس وقت اور جہاں سے پکاروں  
ہر وقت ہر جگہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی  
انسان کے متعلق یہ دو عقیدے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے۔  
اگر کوئی اپنے والد کو جو دوسرے شہر میں ہے۔ یہاں ہندوستان  
میں بیٹھ کر چلا چلا کر اپنی پریشانی میں پکارے تو لوگ یہی کہیں گے  
کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اسی طرح تکلیف میں بظاہر

شفا کرنے پر ڈاکٹر کو بھی قدرت ہے۔ لیکن آج تک ڈاکٹر کو کسی نے خدا نہیں سمجھا، اس کا کام ہے انجکشن لگانا اور دوا دینا آگے شفا دینا اللہ کا کام ہے یہ بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی الہ کا ذکر آیا ہے وہاں دو چیزیں ہیں: ۱۔ علم کامل ۲۔ قدرت کامل ضرور ہیں۔ قرآن میں ہے:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَ  
يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ قَلِيلًا مَّا  
تَذَكَّرُونَ ۝ ترجمہ ”بھلا کون ہے جو بیقرار کی پکار سنتا ہے  
اور تکلیف دور کرتا ہے جب وہ بیقرار اس کو پکارتا ہے  
اور کون ہے جو تم کو زمین میں تصرف کا حقدار بناتا ہے۔ کیا  
کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم غور کرتے  
ہو“

اس آیت میں وہی دو صفات ہیں، مضطر کی پکار کو سننا  
علم کامل، اور اس کی پکار سن کر دکھ دور کرنا قدرت کامل، پھر  
اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو ایسا کر سکے۔  
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا  
أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا سَوَابِغًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا  
۝ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَعْلمُونَ ط

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس زمین کے درمیان  
ندیاں بنائیں اور زمین کے لئے بھاری بھاری پہاڑ بنائے  
اور دو دریاؤں کے درمیان روک اور آڑ بنا دی۔ کیا اللہ کے  
سوا اور الہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے ہی نہیں۔  
یہاں زمین کو قرار گاہ بنانا، اس میں نہریں چلانا، پھر  
دریاؤں اور سمندروں میں کمرٹھے دیکھیں کہ ایک ہی دریا ہے  
مگر ایک طرف بیٹھا پانی بہتا ہے اور دوسری طرف کڑوا۔  
لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان ایک غیر مرئی آڑ رکھی ہے جو دو  
پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ بنگلادیش میں ایک دریا ہے  
ایک طرف بیٹھا پانی، دوسری طرف کڑوا ہے۔ لیکن آپس میں ملنے  
نہیں۔ دریا کے چناب کا پانی ٹیلا لے رنگ کا ہے۔ اور دریائے  
سندھ کا پانی صاف و شفاف ہے ملنے کے بعد جو دونوں دریاؤں  
کا پانی جدا جدا نظر آتا ہے۔ سمندر میں دیکھیں عدن کے قریب  
ایک طرف ٹھنڈا پانی ہے دوسری طرف گرم پانی ہے۔ یہ قدرت  
کامل ہے۔ یہاں بھی آخر میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور  
الہ ہے جو ایسا کر سکے۔

## اسماء و صفات

اللہ کی صفات کو ہم اسماء بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صفت اسم کب بن جاتی ہے۔ تو جاننا چاہئے کہ جب صفت کمال کی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ صفت بولے جانے پر اللہ ہی تبادر الی الذہن ہو تو اس وقت صفت اسم بن جاتی ہے۔ اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) صفة الذات (۲) صفة فعل۔ صفت ذات وہ ہے جس کا مقابل نہ پایا جاتا ہو۔ مثلاً آپ کہیں "اللہ رحیم" اللہ زندہ ہے تو حی یہ صفت ذات ہے جس کا مقابل نہیں پایا جاتا جو میت ہے۔ اور محی صفت فعل ہے کیونکہ اس کا مقابل میت پایا جاتا ہے اسی طرح عزیز صفت ذات ہے معز صفت فعل ہے کیونکہ اس کا مقابل مذل پایا جاتا ہے۔

## احد اور واحد میں فرق

اختلاف اس میں نہیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ وہ ایک ہے یا نہیں معلوم ہوا کہ لفظ جلالتہ اللہ میں نزاع نہیں۔ نزاع تو اس کے بعد والے الفاظ میں ہے کہ وہ احد ہے یا نہیں۔ صمد ہے یا نہیں والد ہے یا نہیں مولود ہے یا نہیں

اس کی کوئی نظیر ہے یا نہیں۔ کلمہ احد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ ایک چیز کبھی واحد ہوتی ہے بھی مرکب ہوتی ہے اور چیز جب مرکب ہو تو اجزاء کی محتاج ہوتی ہے واحد سے اس بات کی نفی تو ہو جاتی ہے کہ اس کے مثل کوئی واحد ہو، لیکن اس سے اس کے فی ذاتہ مرکب ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے پہلے مناطہ کی ایک اصطلاح کل اور کلی جز اور جزئی سمجھ لیں۔ کل، جز کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور کلی جزئی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کلی وہ جنس ہے جو ایسی کثیر چیزوں پر بولی جائے جنکی حقیقتیں ایک ہوں مثلاً لفظ انسان کلی ہے یہ زید، عمر، بکر، خالد، حامد سب پر بولا جاتا ہے۔ اور سب کی حقیقتیں ایک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ سب کی حقیقتیں ایک ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم زید، عمر، بکر وغیرہ میں کسی کو موضوع بنائیں اور لفظ انسان کو اس کا محمول بنا دیں اور دیکھیں کہ قضیہ صحیح ہے یا نہیں۔ مثلاً ہم یہ کہیں زید انسان، عمر انسان، بکر انسان ظاہر ہے کہ سارے قضیے صحیح ہیں اس سے پتہ چلا کہ ان سب کی حقیقتیں ایک ہیں خلاصہ یہ کہ کلی اپنی جزئیات میں سے ہر جزئی کا جز ہوتی ہے مگر کل کا معاملہ

ایسا نہیں ہے کیونکہ کل کا اطلاق کثیرین پر تو ہوگا مگر اسکے  
افراد کی حقیقتیں جدا جدا ہوں گی مثلاً کرسی جو بہت سی چیزوں  
مثلاً لکڑی، کیلوں، چڑوں وغیرہ سے ملکر بنتی ہے اور کیل لکڑی  
چمڑا سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیل کرسی  
ہے لکڑی کرسی ہے اس بحث سے ایک عجیب منطقی اصول ماموم  
ہو کہ کلی جز ہے اور جزئی کل ہے فافہم و تدبر۔

اتنا سمجھنے کے بعد اب لفظ واحد کو دیکھئے کہ یہ کلی ہے یا کل  
ہے تو جواب یہ ہے کہ واحد کل ہے۔ اور کلمہ احد - کلمہ واحد  
کا غیر ہے یعنی کلمہ احد کل نہیں ہے۔

## احد اور واحد کے فرق کی مزید تفصیل

اگرچہ قرآن حکیم نے توحید الہی کو لفظ واحد سے بھی بیان کیا ہے۔  
مثلاً وهو الواحد القہار۔ لیکن یہاں اس کی شان یکتائی  
کا اظہار مقصود ہے یعنی وہ ایسا واحد ہے کہ اس میں کثرت  
کا کوئی شائبہ نہیں۔ نہ جنسی نہ نوعی نہ مقداری نہ عددی نہ  
اعتباری، اس لئے یہاں واحد کے بجائے احد کا لفظ استعمال  
کیا گیا۔ کیونکہ انسان کے دماغ میں واحد سے پہلے نصف (آدھا)  
اور واحد کے بعد اثنین (دو) کا تصور آ سکتا ہے لیکن احد کا

لفظ ان دونوں تصورات کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ ایسا  
"واحد" ہے کہ اس کی نظیر یا مثال کا اُتات میں کہیں موجود  
نہیں۔ یعنی لفظ احد میں وحدت ذاتی اور شان یکتائی  
دونوں تصورات مضموم ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی  
مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس فرق کو مثال سے  
یوں واضح کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے۔ فلان لا یقوم لہ واحد۔  
اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلان آدمی کے لئے ایک شخص نہیں  
کھڑا ہو رہا ہے بقیہ سب کھڑے ہو گئے۔

اور فلان لا یقوم لہ احد اس کا مطلب یہ ہوا کہ  
فلان آدمی کے لئے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ اہل لغت نے احد  
اور واحد میں یہ فرق بتایا ہے کہ "واحد" وہ ہے جسکی ذات میں  
کوئی شریک نہ ہو اور واحد وہ ہے جس کی صفات میں اس کا  
کوئی شریک نہ ہو غالباً اس وجہ سے لفظ احد اللہ تعالیٰ کے  
سوا اور کسی کے لئے بطور صفت نہیں آیا ہے اس سے یکتائی اور  
بے ہمگی من کل الوجوہ سمجھی جاتی ہے

## لفظ احد سے تنویر کا رد

علامہ شہرستانی نے الملل والنحل کے حاشیے پر لکھا ہے کہ جو کسی

حیثی کے باالمقابل ہیں۔ یہ تنویر کے علم پر دار تھے یعنی ان کا خیال تھا کہ خدا دو ہیں۔ نور اور ظلمت، اور یہی عالم میں خیر و شر اور نفع و ضرر، اصلاح و فساد کے ذمہ دار ہیں فارسی میں ان کو نیرواں (خالق خیر) اور اہرمن (خالق شر) کہتے ہیں۔ لفظ احد سے تنویر کے باطل نظر کے کی تردید ہو گئی کیونکہ احد ایسے واحد کو کہتے ہیں جس میں کثرت کا کوئی شاہد نہ ہو۔ (یعنی مطلب یہ ہوا (۱) وہ ہمیشہ سے ہے اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا۔ (۲) اس کے پہلے نہ کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد ہوگا (۳) وہ ہمیشہ سے ہے اس کے سوا جو کچھ ہیں سب اسی کی مخلوق ہیں (۴) خداؤں کی کوئی جنس نہیں جس کا وہ فرد ہو۔ قرآن میں ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ط اور اللہ نے کہا دو معبود نہ بناؤ بیشک وہ تنہا معبود ہے، پس تم لوگ مجھ ہی سے ڈرا کر و“

**تعدو فی الالوہیت** (یعنی الہ کئی نہیں ہیں) کی نفی پر ابن تیمیہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَىٰ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط اللہ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہو

اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ آیت مذکورہ میں پہلے اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو جس کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی واسطہ ہے، دوسرے اس بات کی بھی اس آیت کے تحت سے نفی ہو گئی کہ معبود متعدد ہوں۔ کیونکہ اگر الہ واحد کے ساتھ کسی اور کو بھی مستحق عبادت تسلیم کر لیا جائے تو یہ امر دو حال سے خالی نہیں (۱) یہ کہ ہر الہ قادر ہوگا تو لازم آئے گا کہ ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا۔

(۲) ایک الہ قادر ہو دوسرا نہ ہو، تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ ہر معبود دوسرے پر چڑھائی کر لیتا اور یہ معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ قادر صرف ایک الہ ہوگا۔ اور وہی مستحق عبادت ہوگا۔ آیت مذکورہ میں دو لازم ہیں۔ اور مشاہدہ دونوں لازموں کی نفی کرتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی نفی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا جس کی عبادت کی جائے۔

دوسری دلیل <sup>۳۴</sup> قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ نَزَعْتُمْ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا  
 فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ  
 مِنْ ظٰهِيْرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ  
 اٰذِنَ لَهُ ۗ ؕ تو کہہ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھ  
 بیٹھے ہو وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں  
 اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے۔ اور نہ اللہ کا ات  
 میں سے کوئی مددگار ہے۔ اور اس کی شفاعت کام نہ دیگی  
 مگر جس کے لئے وہ اذن فرمائے۔

اس آیت میں مشرکین سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ  
 جنکی تم عبادت کرتے ہو یہ مستقل طور پر یا شرکت کے طور پر زمین  
 اور آسمان میں ذرہ برابر مالکانہ حق رکھتے ہیں؟ اور یا ان میں  
 سے کسی نے زمین اور آسمان کی تخلیق میں امداد کی ہے؟ مشرکین  
 اس سوال کے جواب میں خاموش ہیں۔ اور ان کا یہ سکوت اس  
 بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان  
 میں ذرہ برابر مالکانہ حق نہیں رکھتے اور انہوں نے تخلیق میں  
 معاونت بھی نہیں کی ہے۔ پھر قرآن ایک دوسرے قضیے کی نفی  
 کے لئے آگے بڑھتا ہے اور مشرکین سے کہتا ہے کہ شفاعت اس

۴۰  
 کے حضور وہی کہہ سکتا ہے جسے وہ شفاعت کی اجازت دے  
 جس سے مشرکین کا یہ دعویٰ باطل ہوتا ہے۔ کہ مَا نَعْبُدُهُمْ  
 اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ نَرْفَعُوْهُنَّ اِلَيْهِمْ  
 مستقل طور پر نہ شرکت کے طور پر تخلیق کر سکے وہ مستحق عبادت  
 نہیں ہو سکتا۔

## تفسیر الصمد

ابن عباس نے فرمایا کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جسکی  
 سرداری کامل ہو۔ سدی سے مروی ہے کہ صمد کا اطلاق اس  
 پر ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ آرزوئیں لیکر جائیں اور مصیبتوں  
 کے وقت اس سے فریاد کریں۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ  
 صمد وہ ہے جو اپنے سارے افعال و صفات میں کامل ہو۔  
 مقاتل بن حیان سے مروی ہے کہ صمد وہ ہے جس میں کوئی  
 عیب نہ ہو۔ زجاج کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس پر سیادت  
 ختم ہو جاتی ہو۔ ہر چیز کا صمد اس کی طرف ہو۔ یعنی ہر شیء  
 اس کا قصد کرے۔ اسی طرح جب لوگ کسی گھر کی طرف  
 بوقت حاجات جانے کا ارادہ کریں۔ تو وہ گھر بیت مصمود  
 یا بیت مصمد کہا جاتا ہے۔ طرفہ کا شعر ہے

وان يلتق الحی الجیمع تلاقی  
الحی ذرۃ البیت الرفیع المصمد  
” اور اگر سارا قبیلہ جمع ہو تو بلند مکان کی چوٹی پر وہ مجھ سے  
ملاقات کر سکے گا۔

ابن عطاء کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو بننے بگڑنے سے بالاتر  
ہو۔ فتاویٰ کا قول ہے کہ صمد وہ ذات ہے جو اپنی مخلوقات  
کے بعد بھی باقی رہے۔

مرۃ الہمدانی سے مروی ہے کہ صمد وہ ذات ہے جسے کہنگی اور  
اور فنا لاحق نہ ہو، محمد بن کعب قرظی اور عکرمہ سے مروی ہے کہ  
صمد اس چیز کا نام ہے جس میں سے کچھ نکل نہ سکے۔ میسرہ  
سے مروی ہے کہ انہوں نے صمد کے معنی مصمت (ٹھوس چیز)  
بتائے ہیں۔

ابن قتیبہ کا قول ہے کہ صمت دراصل صمد ہی ہے۔ گویا ت،  
د، سے بدل گئی ہے۔ لیکن ابن تیمیہ کے نزدیک یہاں ابدال  
نہیں اشتقاق اکبر ہے۔

## اشتقاق کی توضیح

اشتقاق کا مطلب ہے۔ اخذ کلمۃ من کلمۃ اخری

یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے نکالنا ماخوذ منہ (جس  
سے نکالا گیا ہو) اصل ہوتا ہے اور ماخوذ (جو نکالا گیا ہو)  
فرع ہوتا ہے۔

## اشتقاق کی تین قسمیں ہیں

(۱) اشتقاق اکبر (۲) اشتقاق اصغر (۳) اشتقاق اوسط  
اگر ماخوذ منہ اور ماخوذ کے کچھ حروف میں اشتراک عینی ہو  
اور کچھ حروف میں اشتراک جنسی ہو تو اشتقاق اکبر ہے  
مثلاً حزر، غمر، از، ان تینوں لفظوں کو دیکھئے کہ ہر ایک  
کے آخری دو حرف ایک جیسے ہیں۔ یہ اشتراک عینی ہے۔  
اور تینوں لفظوں کے شروع کے حروف مثلاً ح، ع، ا۔  
اگرچہ ایک جیسے نہیں مگر ان کی جنس مشترک ہے کیونکہ  
تینوں حروف حلقی ہیں۔ اگر ماخوذ منہ اور ماخوذ کے کلموں کے  
حروف اور ترتیب دونوں میں موافقت ہو تو اشتقاق اصغر  
ہے جیسے صدق۔ اور صادق۔ اور اگر ماخوذ منہ اور ماخوذ  
کے کلموں کے حروف کے درمیان موافقت ہو مگر ترتیب میں  
عدم موافقت ہو تو اشتقاق اوسط ہے۔

اس تشریح کی روشنی میں جوہری کا قول دیکھئے وہ کہتے  
ہیں کہ لغت میں مصمد کے معنی مصمت کے ہیں۔ اور

صحت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کھوکھلا پن نہ ہو۔ یہاں ظاہر ہے کہ مصمد اور مصمت میں اشتقاق اکبر ہے۔ لیکن مصمد بلحاظ معنی مصمت کی نسبت زیادہ کامل ہے کیونکہ مصمد میں دال ہے اور مصمت میں "ت" سے زیادہ قوی ہے۔ یعنی بن کثیر کا قول ہے کہ فرشتے مصمد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملائکہ خدا کی مخلوقات میں سے ہیں جب وہ مصمد ہیں اور کھات پیتے نہیں تو ان کے خالق میں غذا اور کمال بطریق اولیٰ موجود ہونا چاہئے۔ اسی طرح بعض اسلاف کرام نے مصمد کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جو نہ کھائے اور پیے۔

## المصمدی الوہیت مسیح کا رد

قاعدہ عقلیہ ہے کہ جب دو نقیضوں میں سے ایک کو باطل کر دیا جائے تو دوسری کا وجود ضرور ثابت ہوتا ہے۔ یا ایک کا وجود ثابت ہو تو دوسری کا عدم ہو جائے گا مثلاً ثابت کیا جائے کہ کسی خاص وقت میں رات نہیں ہے تو دن ضرور ہوگا اور اگر ثابت کیا جائے کہ کسی خاص وقت میں دن ہے تو رات نہ ہوگی۔ اس قسم کی دلیل کو علماء مناظرہ "دلیل خلف" کہتے ہیں۔ اور جو حکم تتبع اور تلاش کے بعد لگایا گیا ہو

اسے استقراء کہتے ہیں۔ جیسا کہ کسی مدرسے کے بعض طلباء سے ملنے پر انہیں بااخلاق پانے پر یہ حکم لگا دینا کہ اس مدرسے کے تمام طلباء بااخلاق ہیں یہ بھی ایک قسم کی دلیل ہے مگر دلیل خلف کی بہ نسبت زیادہ کمزور ہے اور جو حکم بطور مشابہت لگایا جائے اس کو تمثیل کہتے ہیں جیسے شراب پر حرمت کا حکم دیکھا جس کی علت نشہ ہے اب بھنگ کے اندر نشہ معلوم ہونے پر اس پر بھی حرمت کا حکم لگا دیا اس میں شراب مقیس عالیہ اور بھنگ مقیس ہے اور علت نشہ ہے جو دونوں میں مشترک ہے انہیں تینوں دلائل کی طرف قرآن نے اشارہ کر کے فرمایا۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ بَشَرًا لَّمَّا سَوَّلُوا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ مَرْيَمُ بِرِضَاكِهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَخَدَّاقٌ بَصِيرٌ  
 الطعام ط یہ کہنا کہ مسیح تو صرف ایک اللہ کا رسول ہے تمثیل ہے یعنی جیسے اور رسول ہیں جن کو بندگی سے بڑھ کر خدائی میں ذرہ برابر دخل نہیں اسی طرح مسیح بھی اللہ کا رسول ہے نہ کہ خدا۔ اور یہ کہنا کہ اس سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے استقراء کی طرف اشارہ کیا یعنی کل رسول جو خدا کی طرف سے آئے ہیں ان کے لئے بجز بندگی کے اور کوئی مرتبہ

نہیں ہو ا پھر مسیح کا کیونکہ ہونے لگا اور یہ کہنا کہ مسیح کے  
ماں نیک بندی تھیں اور مسیح اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے  
تھے۔ اسی بڑی زبردست دلیل کی طرف اشارہ ہے جسے  
دلیل خلف کہتے ہیں

یعنی جب مسیح کی ماں تھی اور وہ بھی خدا کی نیک بندی تھی  
اور ماں بیٹے دونوں کھانے کے محتاج تھے تو ایک وجہ سے  
نہیں بلکہ کئی وجہ سے مسیح کی عبدیت ثابت ہوئی۔  
(۱) ایک تو یہ کہ اس کی ماں ہے جس نے مسیح کو جنا۔  
(۲) اس کی ماں خدا کی تابعدار بندی تھیں۔ تو بیٹا بھی  
ضرور بالضرور خدا کا بندہ اور تابعدار ہوگا۔

(۳) دونوں ماں بیٹا طعام کے محتاج تھے ایسے کہ جیسے  
اور لوگ محتاج ہوں اور ظاہر ہے کہ جو محتاج الی الغیر ہو  
وہ مخلوق ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی آپ  
نے پڑھا ہے کہ وہ الصمد ہے۔ اور صمد وہ ہے الَّذِي لَا  
يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ (جو کھائے نہ پئے) کیونکہ اگر خدا بھی  
طعام وغیرہ کا محتاج ہو تو اس میں شک نہیں کہ طعام بلکہ  
دنیا کی کل چیزیں حادث ہیں۔ یعنی ایک وقت سے ان کی  
ابتداء ہوئی ہے۔ جس سے پہلے وہ نہ تھیں۔ پس جس وقت

وہ نہ تھیں۔ تو ان کے بغیر خدا کا گزارہ کیسے چلتا تھا۔ یا خدا  
بھی اس وقت نہ تھا تو خدا بھی حادث ہوا یا تھا تو مگر بڑی  
وقت سے گزارہ کرتا ہوگا کیونکہ اس بات کو ہمارے مخالفین  
یعنی عیسائی بھی مانتے ہیں کہ جو کھانے وغیرہ کا محتاج ہو۔  
وہ بیشک مخلوق ہوگی۔ پس قرآن مجید میں دلایوں کی شرح  
ہوگئی۔

## ولادت کے معنی

لم یولد ولم یولد وہ نہ والد ہے۔ نہ مولود ہے۔  
ولادت اور تولد کے معنی ہیں ”پیدا ہونا“ اور کسی چیز کے پیدا  
ہونے کے لئے پہلے دو اصولوں کا ہونا ضروری ہے۔ خواہ یہ دو  
اصل متولد یعنی اس پیدا ہونے والی چیز کی جنس سے ہو یا نہ  
ہو۔ جس طرح حیوان میں تو والد کے لئے دو اصولوں کا وجود لازمی  
ہے۔ اسی طرح غیر حیوان میں بھی تو والد دو اصولوں ہی سے ہوتا  
ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی تیسری چیز کے وجود میں آنے کے  
لئے پہلے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں  
جس سے تیسری چیز وجود میں آئی ہے وہ دونوں بھی ایک  
دوسرے کی مخالف جنس ہونی چاہئیں۔ اس اصول کی  
روشنی میں آگ کو دیکھئے کہ زَنْدِیْنِ یعنی چمقائوں کے رگڑنے

۲۷۷  
 سے پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی چیز آگ بن گئی ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ دو چقماقوں کے درمیان جو ہوا ہے وہ آگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کیونکہ ہوا منقلب ہو کر آگ بنتی تو نیچے نہ گرتی۔ کیونکہ ہوا کا خاصہ (صعود) اوپر کو جانا ہے نہ کی ہبوط نیچے کی طرف کرنا۔ ثابت یہ ہوا کہ دو چقماقوں میں سے نیچے کی چیز مثلاً صوفان اور حراق پر چنگاری پیدا کی جاتی ہے رگڑ کے باعث ان سے مادہ خارج ہوتا ہے۔ یہی مادہ جب آگ میں تبدیل ہو چکتا ہے تو پاس کی ہوا بھی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے پتھر سے اگر ثقیل مادہ خارج نہ ہو تو آگ نیچے نہیں گرتی جبکہ رگڑ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگ نیچے ہی گرتی ہے۔ قرآن کی آیت فَاذَا أَنْتُمْ مِنْهَا تُوقِدُونَ کا اشارہ چقماق کی طرف ہے اہل لغت جوہر وغیرہ نے کہا ہے کہ زَنْدُ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے زَنْدُ اوپر والے چقماق کو کہتے ہیں نیچے کے چقماق کو زَنْدِہ کہتے ہیں اوپر والا چقماق زَنْدِہ کہلاتا ہے اور نیچے والا چقماق مادہ کہلاتا ہے، مادہ چقماق میں سوراخ ہوتا ہے دو توں چقماق جمع ہو جائیں تو زَنْدِین (دو چقماق) کہلاتے ہیں۔

۲۷۸  
 ایک قول یہ بھی ہے کہ جس مقام پر چقماق کو رگڑا جاتا ہے وہ عورت کی رحم کی شکل کا ہوتا ہے اس جگہ آگ کا لوتھڑا بنتا ہے جسے حراق اور صوفان کہا جاتا ہے اور دوسری چیزوں کی بہ نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ آگ پکڑ لیتا ہے اور جس طرح بعض اوقات عورت کے رحم میں لوتھڑا نہیں بنتا اسی طرح چقماق میں بھی کبھی لوتھڑا نہیں بنتا۔ اب دیکھئے آگ زَنْدِین کی جنس سے نہیں ہے اور زَنْدِین بھی مخالف جنس والے ہیں۔ قرآن میں ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا وَهُوَ اللَّهُ بِمَا تَشْكُرُونَ جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ متعدد مفسرین کا قول ہے کہ دو درخت ہوتے ہیں ایک کا نام ”مرخ“ اور دوسرے کا نام عفار ہے جو شخص اس سے آگ نکالنا چاہتا وہ ان دو درختوں سے مسواکوں کے برابر دو سبز ٹہنیاں کاٹ لیتا ان سے خواہ پانی کے قطرے گر رہے ہوں۔ لیکن اگر مرخ کو عفار پر رگڑا جائے تو ان دونوں سے آگ نکل آتی۔ ان دو درختوں میں سے مرخ زَنْدِین اور عفار مادہ درخت کہلاتے ہیں۔  
 عرب کہتے ہیں کہ ہر درخت میں آگ ہوتی ہے مگر مرخ اور عفار کو سب پر امتیاز حاصل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عناب

کے علاوہ ہر درخت میں آگ ہوتی ہے یہاں بھی دیکھئے کہ آگ مرخ اور عفار کی جنس نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ جس طرح مرد و عورت کے مادہ سے بچہ تولد ہوتا ہے اسی طرح آگ بھی تر اور مادہ سے خارج ہونے والے مواد سے ہی بنتی ہے

## حیوان متولد و حیوان متوالد

حیوان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو متولد حیوانوں کی ہے جیسے وہ کیڑے جو پھل پھول اور سرکہ وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا مثلاً جوئیں جو جلد انسانی کی میل کچیل سے پیدا ہوتی ہیں۔ یا چوہے۔ پستو وغیرہ جو پانی اور مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری قسم متوالد حیوان کی ہے، مثلاً چوپائے وغیرہ جو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ رہا انسان کا معاملہ، تو اس کی ولادت اور تخلیق کی ممکنہ اقسام چار ہیں۔

(۱) حضرت آدمؑ بغیر مرد و عورت کے پیدا کئے گئے۔

(۲) حضرت حواؑ بلا عورت کے پیدا کی گئیں۔

(۳) حضرت عیسیٰ عورت سے بلا مرد کے پیدا کئے گئے

(۴) بقیہ مخلوق مرد و عورت سے پیدا کئے گئے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اصول یہ ہے کہ جمیع متولدات

۵۔ تمام پیدا ہونے والی چیزیں) دو اصولوں سے پیدا کی گئی ہیں تو مذکورہ بالا تخلیق کی چار قسموں میں سے ابتدائی تین قسموں میں یہ اصول ٹوٹ رہا ہے کیونکہ ان تینوں قسموں کی تخلیق دو اصولوں سے نہیں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ تینوں میں وہی اصول کار فرما ہے۔ اصول کہیں ٹوٹا نہیں ہے حضرت آدم کو دیکھئے کہ ان کی اصل دو چیزیں ہیں۔ مٹی۔ پانی۔ ورنہ صرف مٹی جس میں پانی نہ ملا ہو کوئی جاندار چیز یا سبزی نہیں پیدا ہو سکتی۔ سبزی بھی ساری کی ساری دو اصولوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی حال حوا کا ہے کہ وہ حضرت آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہیں تو ان کی بھی تخلیق کے دو ہی اصل ہوئے رہا معاملہ حضرت مسیح بن مریم کا، تو جاننا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ صرف مریم سے نہیں ہوئے بلکہ مریم اور نوح جبرئیل (جبرئیل کی پھونک) سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وَقَالَتْ اِنِّىٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ سَرِيْكَ لِاَهْبَ لَكَ غُلًا مَّا نَرٰ كِبٰٓءًا فَمَحَمَلَتْهُ

تو ہم نے مریم کی طرف جبرئیل کو بھیجا وہ ایک پورے آدمی کی شکل میں ان کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کہنے لگیں کہ میں

تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے تو میرے سامنے سے ہٹ جا۔ جبریل نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں اس لئے کہ تجھے ایک پاکیزہ بچہ دوں پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ یعنی جب جبریل نے بھونکا تو حضرت مریم کو حمل رہ گیا۔ اسی لئے حضرت مسیح کو اسی نطفہ کے اعتباراً سے ”روح منہ“ کا خطاب ملا۔

اس تفصیل سے بتانا مقصود یہ ہے کہ قائم وجودوں میں سے جس چیز کے متعلق بھی تولد (پیدائش) کا لفظ استعمال کیا جائے گا یہ ضروری ہے کہ وہ دو اصلوں سے بنی ہو اور دونوں میں سے کچھ حصہ جدا ہو کر بنی ہو اگر اللہ کو والد مان کر یہ کہا جائے کہ اللہ کا کوئی مولود (بیٹا) ہے تو لابدی ہے کہ والد سے کچھ مادہ خارج ہو کر اس سے جدا ہو جائے اور دوسرے دو اصلوں سے تولد ہوا ہو اور اللہ چونکہ صمد ہے اس لئے امر محال ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج ہو کیونکہ جتنا بھی اس سے خارج ہو کر الگ ہوگا۔ ظاہر ہے اتنا نقص اس کی ذات میں لازم آئے گا جبکہ اللہ کی ذات تمام نقائص سے مبرا ہے۔

دوسرے اللہ کے لئے بیوی ہونا بھی ممتنع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ لَحْمٌ تَكُنْ لَهَا صَاحِبَةً اور اسکی کوئی بیوی نہیں

اور اگر اس کے لئے کوئی مولود بیٹا مانا جائے تو اولاد باپ کا جز ہوتی ہے جبکہ اس کا کوئی جز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَ جَعَلُوا لَهَا مِنْ عِبَادِهَا جِزْءًا وہ انہوں نے خدا کے بعض بندوں کو اس کا جز یعنی اولاد قرار دے رکھا ہے

## خروج کلام کی تصریح

بعض سلف نے کہا کہ صمد وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نہیں نکلتی اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا کیونکہ قرأت اللہ کا کلام ہے جس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کلام اس سے نکلا ہے۔ متکلم کے منہ سے کلام کے نکلنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بات کرتا ہے اور اس سے بات سنی جاتی ہے اور دوسرے آدمی تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسرے میں پیدا نہیں ہوتی جیسا کہ جہمیہ کا قول ہے یہ خروج (نکلنا) اس معنی میں نہیں ہوتا کہ جو اشیاء متکلم کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جدا ہو کر دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو مخلوقات کی صفات سے بھی بعید ہے کہ صفت اپنے محل کو چھوڑ کر غیر محل میں چلی جائے۔ چہ جائے کہ خالق جل جلالہ کی صفات کے ساتھ یہ کیفیت وارد ہو۔ علم و کلام کی شان یہ ہے کہ جب عالم اور

متکلم سے استفادہ کیا جاتا ہے تو علم اور کلام اپنے محل یعنی عالم اور متکلم سے گھٹتا نہیں ہے وہ ایک روشنی جس سے ہر شخص ضیاء اندوز ہوتا ہے اور وہ روشنی اپنے محل میں علیٰ حالہ قائم رہتی ہے۔ ذرا بھی نہیں گھٹی، اس سبب اس کا یہ قول کہ اللہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نہ نکلے اس معنی میں صحیح ہے کہ اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی۔

## ابنیت اور مولودیت کا رد

قرآن کریم نے مولودیت و ابنیت کی تردید اس لئے کی کہ نزول قرآن سے پہلے جس طرح اور بہت سے غلط اور گمراہ کن عقائد دنیا کی قوموں میں مقبول اور مروج تھے اسی طرح یہ مہمل اور لغو عقیدہ بھی مختلف اقوام میں موجود تھا۔ مثلاً یونان میں "اپالو" شام میں بیکس (Bacches) مصر میں "ہورس" اور عراق میں "منتھرا" کو خدا کا اکلوتا بیٹا تسلیم کیا جاتا تھا۔ انہیں اقوام کی تقلید میں یہود نے عزیرؑ کو اور نصاریٰ نے عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا۔ قرآن کریم کے دسویں پارے میں ہے: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرِي ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ط يَهُود

۵۲  
نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا جو فرقہ حضرت مسیح کے اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ ملکانیہ ہے۔ اگر کوئی خدا کا بیٹا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ بھی خدا ہے تو خدا دو ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ملکر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں یا ان میں سے کوئی معطل ہے یا خدائی ان میں منقسم ہے اگر پہلی صورت تسلیم کی جائے تو سوال یہ ہے کہ بیٹے کی ولادت سے پہلے اکیلا خدا اس کائنات کا انتظام کیسے کرتا تھا۔ اگر کر سکتا تھا تو بیٹے کا وجود بیکار ہوا اگر دوسری صورت صحیح ہے تو سوال یہ ہے کہ معطل اور بیکار خدا کو خدا تسلیم کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر تیسری صورت تسلیم کر لی جائے تو سوال یہ ہے اس کائنات کا کونسا حصہ باپ کے زیر اقتدار ہے اور کونسا بیٹے کے؟

مولودیت کے عقیدے کی لغویت واضح کرنے کے لئے مثالاً چند اعتراض میں نے کر دیئے ہیں اگر اس بحث کو مستقل طور پر لکھا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كُفُوًا أَحَدٌ

اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر سکے۔

اللہ نے قرآن میں اپنے رسول کو بکثرت مقامات پر تسمیح کا حکم دیا ہے تسمیح تنزیہ کو کہتے ہیں۔

تنزیہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز پائی جائے جس کی کوئی نظیر نہ ہو نہ شکل میں نہ اور کسی چیز میں۔ مثلاً اللہ وجود کی صفت

سے متصف ہے اور اس کی مخلوق بھی صفت وجود سے متصف ہے۔ لیکن اللہ کا وجود مخلوق کی وجود کی طرح نہیں ہے کیونکہ

مخلوق کا وجود عدم سے ہے پھر اس کا وجود عدم کی طرف چلا جائے گا۔ اور اللہ کا وجود نہ عدم سے ہے نہ عدم کی طرف جائیگا

یہاں دیکھئے وجود کی صفت قدر مشترک ہے مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو منترہ کر دیا کہ اس کی مخلوق کسی بھی چیز میں اسکے

مساوی نہیں۔ اور جب آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس کی پنڈلی ہے اس کے ہاتھ ہے پیر ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں

کہ اس کا چہرہ، ہاتھ، پیر، اور پنڈلی مخلوق کے چہرے ہاتھ، پیر اور پنڈلی کی طرح ہے۔ بیشک ہمارے رب کا وجود ہے۔

آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پیر ہیں مگر یہ وجود اور آنکھ، کان، ہاتھ

پیر مخلوق کے وجود اور آنکھ، کان، ہاتھ کی طرح نہیں ہیں ایک اور مثال لیجئے، دیکھئے اللہ حی (زندہ) ہے اور انسان بھی

حیات سے متصف ہے۔ تو کیا انسان کی حیاۃ اللہ کی حیات کی طرح ہے ہرگز نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے ناموں میں سے

کوئی نام یا اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف آئے جس نام اور وصف کا مثل مخلوق میں بھی پایا جاتا ہو، تو

ہمارے سامنے دو باتیں ہیں (۱) تمثیل اور (۲) تعطیل

تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے پاس کان نہیں، کیونکہ مخلوق کے پاس کان ہیں۔ کیا ہم

ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں کیونکہ اللہ نے خود اپنے لئے کان ثابت کیا ہے تو آپ کو ماننا ہے کہ اس کے کان

ہیں مگر اس کان کی کیفیت کیا ہے یعنی وہ کان کیسا ہے یہ تمہارا کام نہیں اور نہ یہ کیفیات محل ایمان ہیں

جب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو کسی وصف سے متصف کیا ہے جو ممکن ہے کہ اس کی مخلوق میں بھی پایا جاتا ہو، تو آپ کو تنزیہ کرنا ہے یعنی آپ کو کہنا ہے کہ ”یہ“ ”اس“ کے مثل نہیں۔

مسئلہ توحید کے متعلق پہلے تمام مذاہب میں جو حقیقت میں توحید کا پیغام لیکر دنیا میں آئے تھے تین اسباب سے غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوئیں۔

(۱) جسمانی تشبیہ و تمثیل (۲) صفات کو ذات سے الگ اور مستقل ماننا (۳) افعال کی نیرنگیوں سے دھوکہ کھانا،

جسمانی تشبیہ و تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اور خدا کی صفتوں کو، اور خدا اور بندے کے باہمی تعلق کو واضح کرنے کے لئے مادی تمثیلیں اور تشبیہیں ایجاد کر لی جائیں جیسا کہ دیگر مذاہب کے معتقدوں نے ایجاد کیں۔ غلط فہمیوں کا دوسرا سبب صفات کا مسئلہ ہے یعنی صفات کو ذات الہی سے الگ مستقل وجود کے طور پر تسلیم کرنا۔ ہندوؤں کے عام مذاہب میں خداؤں کا جو لاتعداد لشکر نظر آتا ہے وہ حقیقت میں اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ ہر صفت کو انہوں نے علیحدہ اور ایک مستقل وجود مان لیا اس طرح ایک خدا کے ۳۳ کروڑ خدا بن گئے ہندو مذہب کے فرقوں پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ اسی ایک مسئلہ

صفات کے تجسیم اور مستقل وجود کے تخیل سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

## خدا کی تین بڑی صفتیں

(۱) خالقیت۔ پیدا کرنا (۲) قیومیت، قائم رکھنا (۳) ممیتیت فنا کرنا۔

ہندو فرقوں نے ان تین صفتوں کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا اور برہما و شنو اور شیو۔ خالق قیوم ممیتیت، تین مستقل ہستیاں بن گئیں۔ یہی حال عیسائیوں کا ہوا انہوں نے خدا کی تین دیگر بڑی صفتوں حیات، علم، ارادہ کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا۔ حیات باپ ہے۔ علم روح القدس ہے، ارادہ بیٹا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ذات کی صفتیں ہیں صفات کے تعدد اور اختلاف سے موصوف میں۔ تعدد اور اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی کسی کا خاوند اور کسی کا چچا، کسی کا بھتیجہ ہے۔ ان تمام

مختلف القاب کے باوجود یہ شخص واحد ہی رہتا ہے جب کثیف چیزوں کا یہ حال ہے تو خدا کی صفات کے تعدد سے اس کی ذات میں تعدد کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے وہ تمام موجودات سے زیادہ لطیف بلکہ سرچشمہ لطافت ہے۔ گمراہی کا تیسرا سرچشمہ افعال کی نیرنگی ہے۔ لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ ان مختلف افعال کی کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں۔ کوئی ہستی مارتی ہے کوئی جلاتی ہے، کوئی لڑاتی ہے کوئی صلح کراتی ہے، کوئی علم کا دیوتا ہے کوئی دولت کی دیوی ہے۔ ان نادانوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ایک ہی ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال ہیں

## صفات لایعین اور لاغیر ہیں

خدا کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ان کو صفت ذات اور صفت فعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا کی صفات ذاتیہ کا تعلق اس کی ذات سے ایسا ہی ہے۔ جیسے پھول کے ساتھ رنگ و بو، آفتاب کے ساتھ حرارت اور روشنی۔ آگ کے ساتھ گرمی

کا تعلق و قیام ہے۔ رہی صفت فعل تو یہ وہ صفت ہے، جو کسی معلول اور مفعول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خدا کے لئے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً آگ کی تو ایک صفت حرارت ہے جو اس کی ذاتی ہے۔ جب آگ کا وجود ہوگا تو حرارت ضرور ہوگی اور ایک صفت ہے جلانا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صفت اس رابطہ پر دلالت کرتی ہے جو آگ کے اور کسی چیز کے درمیان پایا جاتا ہے۔ صفت فعل، صفت ذات کا ہی پر تو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ صفت اس تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کسی دوسری شے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے اس صفت کو ذات موصوف سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو صفت ذات کو ہوتا ہے اس بنا پر اس صفت کا ظہور جو مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہوتا ہے اس کا اثر ذات پر کچھ نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صفت کی وجہ سے ذات موصوف میں کچھ تغیر ہو گیا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ خدا میں کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس ذات

گرامی کو اللہ کہتے ہیں وہ تمام صفات کمالیہ کا،  
مستجمع ہے اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ  
ہر شئی اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تو ہر نقص کے  
مقابل میں کوئی کمال پایا جانا ضروری ہے۔ اب  
دیکھئے کہ انسان کا وجود ناقص ہے۔ تو لا محالہ اس  
کے مقابلے میں ایسا وجود پایا جانا ضروری ہے۔  
جو کامل ہو، رہا اس سوال کا حل کہ صفات عین  
ذات ہیں یا غیر ذات تو اس کا جواب یہ ہے کہ  
صفات باری تعالیٰ کو اس کی ذات سے ایسی  
نسبت ہے کہ ان صفات کو نہ عین ذات کہہ سکتے  
ہیں نہ غیر ذات مثال کے طور پر کسی ریڈیو اسٹیشن  
سے ایک تقریر نشر کی جاتی ہے اور آپ اسے  
اپنے ریڈیو سیٹ پر سنتے ہیں آواز کو کم یا زیادہ کرنے  
والے سوئچ کو گھما کر کبھی آپ آواز کو مدہم کرتے  
ہیں اور باندھتے ہیں آپ کے پیچ گھمانے سے مقرر  
کی اصل آواز میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی مقرر تو  
ایک ہی آواز سے اپنی تقریر پڑھتا چلا جا رہا ہے۔  
لیکن اس کے باوجود یہ ہلکا پن یا تیزی صفت کس کی

ہے۔ ظاہر ہے کہ آواز ہی کی صفت ہے اور دلیل یہ  
ہے کہ آواز کے گھٹنے بڑھنے پر ہم بے تکلف بول اٹھتے  
کہ آواز کم ہوگئی یا زیادہ ہوگئی کوئی شخص یہ سوال  
کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت متکلم ہے۔ اس نے  
موسیٰ کو ندا دی اور انہیں مخاطب کر کے کلام کیا تو  
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ازل  
میں ندا دی تھی، اور ان سے کلام کیا تھا اور وہ برابر  
ندا دیتا رہا۔ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ذات باری کے  
ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے۔ اس کا موسیٰ  
سے کلام اور مخاطبت ازل میں نہیں تھی بلکہ حادث  
تھی اور متکلمین یہ کہتے ہیں کہ حوادث کا قیام اللہ کے  
ساتھ ناجائز ہے۔ لیکن حق وہی ہے جو ابن تیمیہ  
نے کہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهَا نُورًا دَرِيًّا - پس جب موسیٰ وہاں  
آئے تو ان کو ندا دی گئی۔

دیکھئے اس میں ندا حضرت موسیٰ کی آمد سے موقت ہے۔  
ابن تیمیہ کے اس قول سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ  
وہ قرآن کے حروف کو حادث مانتے ہیں۔ بلکہ مطلب

یہ ہے کہ وہ عربی الفاظ و حروف جن سے انسانی کلام مرکب ہوتا وہ بلاشبہ حادث ہیں لیکن یہی الفاظ و حروف خدا کی صفت کا مظہر اور تجلی گاہ بن جاتے ہیں۔ تو اب ہم ان کو اپنے کلام کے الفاظ و حروف پر قیاس کر کے مخلوق اور حادث نہیں کہہ سکتے۔

## جسم باری تعالیٰ پر بحث

لفظ جسم ایک نیا اور بتدعا نہ لفظ ہے۔ کسی شخص کو یہ زبیا نہیں کہ وہ اس لفظ کو اللہ کے متعلق زبان پر لائے۔ قرآن و سنت سے کسی صحابی اور تابعی کے قول سے اور امت مسلمہ کے کسی امام کی تحریر و تقریر سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نفیا یا اثباتاً یہ لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ ابن تیمیہ تفسیر سورہ اخلاص میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے جسم کا لفظ استعمال کیا اور اس سے مرکب مراد نہ لیا تو وہ لغت عرب کے دائرے سے نکل گیا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز سے مرکب و مولف ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف محتاج ہوتی ہے اور صمد غنی ہوتا ہے مرکب کبھی

صمد نہیں ہو سکتا۔

جہمیہ معتزلہ اور بہت سے فلاسفہ اور باطنیہ صفات کے منکر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اثبات صفات کے لئے جسم کا ہونا ضروری ہے اور جسم تو ہے نہیں اس لئے اللہ کے واسطے صفات کیسے ثابت ہو سکتی ہے ان کے نزدیک صفات ان اعراض کو کہتے ہیں جو ایک جسم کے ساتھ قائم ہوتے ہیں جس جسم کا علیہ ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا پھر کہتے ہیں کہ رویت معائنہ کے بغیر نہیں ہو سکتی اور معائنہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مرئی کسی خاص سمت میں ہو اور کوئی چیز کسی سمت میں اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ جسم ہو، عقیدہ الطحاوی کے فاضل شارح نے لکھا ہے "اللہ تعالیٰ صفت کمال، یعنی صفات ذات اور صفات فعل دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے متصف رہا ہے۔۔۔ کیونکہ خدا کی تمام صفات، صفات کمال ہیں۔ اور ان میں سے کسی ایک کا نہ ہونا۔ صفت نقص ہے۔"

## مسئلہ خیر و شر

تمام افعال کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک خیر اور ایک



یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ خیر مطلق ہے، اس نے یہ دنیا اپنی رحمت کیلئے بنائی ہے اس وجہ سے اس کی طرف کسی شرکی نسبت اس کی پاکیزہ صفات کے منافی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک خاص دائرے میں آزادی بخشی ہے۔ یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس دائرے کے اندر بھی یہ خدا کی مشیت اور اس کی حکمت کے تحت سے خدا کی مشیت کے بغیر انسان اپنے کسی ارادے کو پورا نہیں کر سکتا۔ انسان کے نیک ارادے اسی کی توفیق بخشی سے پورے ہوتے ہیں اور ہر ارادے بھی اس کے مہلت دینے سے بروئے کار آتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کے برے ارادے کو بروئے کار آتے دیتا ہے اس پہلو سے تو وہ خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ اس کا بروئے کار آنا خدا کی مشیت اور اذن سے ہوا لیکن دوسرے پہلو سے وہ انسان کا فعل ہے کیونکہ اس کا ارادہ انسان نے خود کیا۔

## اِنَّا اور نَحْنُ کی بحث

نجران کے نصاریٰ نے کہا تھا کہ ہماری دلیل قرآن میں

۴۸  
قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں اِنَّا اور نَحْنُ جمع کے الفاظ ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ معبود تین ہیں کیونکہ جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے۔ ان نصرائیوں نے محکمات قرآنہ کو چھوڑ دیا اور متشابہ آیات کے تیجے پڑ گئے، محکم آیات میں صاف مذکور ہے کہ معبود ایک ہے۔ اِنَّا اور نَحْنُ کے الفاظ کی بحث چھیڑ کر ان کی غرض فتنہ برپا کرنا، اور لوگوں کے دلوں میں کفر پیدا کرنا تھا۔ یہ الفاظ اس واحد کے لئے بولے جاتے ہیں جس کے مددگار ہوں اور مددگار یا تو شریک ہوں گے یا مملوک۔ اس لئے یہ الفاظ متشابہ ہو گئے، جس کے ساتھ شریک ہوں۔ وہ کہتا ہے فَعَلْنَا نَحْنُ كَذَابًا، ہم نے ایسا کیا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان میں ممتنع ہے۔ اور جس کے مددگار مملوک اور مطیع لوگ ہوں جو اسے بادشاہ سمجھ کر اس کی اطاعت کریں وہ کہتا ہے فَعَلْنَا كَذَابًا یعنی ہم نے اپنے اہل ملک اور غلاموں کے ذریعہ یہ کیا اور خدا کے سوا ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہے وہ

خود جہان کی تدبیر و انتظام کرتا ہے جو کام کرنا چاہے اور جو کچھ پیدا کرنے کا ارادہ کرے اس کے فرشتے حکم کی بجا آوری کے لئے مستعد رہتے ہیں وہ اس کے قاصد اور مطیع ہیں اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا اور نَحْنُ کہنے کا زیادہ حق ہے کیونکہ اس کے سوا کسی کی مملکت اور ملکیت مکمل نہیں اور کسی کا حکم پورے طور پر نہیں مانا جاتا۔

## حلول و اتحاد اور تصور اوتار کا رد

ہندو قوم نے رام اور کرشن کو خدا کا اوتار سمجھ لیا ان کی دیکھا دیکھی جین دھرم کے پیروؤں نے مہا بیر کو اور بدھ دھرم کے بتبعین نے گوتم بدھ کو خدا کا اوتار سمجھ لیا۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ یعقوبیہ ہے یہ مسیح بن مریم کو خدا مانتے ہیں۔ قرآن میں اسی عقیدے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ جو لوگ مسیح بن مریم کو خدا مانتے ہیں وہ کافر ہیں۔ ایک دوسرا فرقہ ملکانیہ ہے جو مسیح کے ابن اللہ (اللہ کا بیٹا) ہونے کا قائل ہے اس آیت میں

انہیں کی طرف اشارہ ہے وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ نَصَارَى کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تیسرا فرقہ نستوریہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے وہ کافر ہیں، اس آیت سے اسی فرقے کی طرف اشارہ ہے۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دیدی گئی مگر قرآن میں ہے کہ مسیح کو موت نہیں آئی اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ کے ناسوت کو سولی دی گئی لاہوت کو نہیں وہ کہتے ہیں ناسوت اور لاہوت اس طرح مل گئے جس طرح پانی دودھ میں مل جاتا ہے یہ تشبیہ یعقوبیہ فرقے کی ہے، یا لاہوت اور ناسوت اس طرح مل گئے ہیں جس طرح آگ لوہے میں جاتی ہے۔ تشبیہ ملکانیہ فرقے کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں جو چیز پانی کو پہنچے گی وہ دودھ کو بھی پہنچے گی کیونکہ دونوں چیزیں اس طرح مل گئی ہیں کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں رہ گئی ہیں یہی حال آگ اور لوہے کا ہے جو لوہے میں حل کر گئی ہے اگر لوہے

کو پیٹا جائے تو آگ بھی متاثر ہوگی اس طرح بدن کو ضرب لگائی جائے تو ضرب کی تکلیف روح کو بھی پہنچے گی۔ عیسائیوں کے اتحاد کے ثبوت میں جو تمثیل پیش کی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جو ناسوت کو پہنچے وہی لاہوت کو بھی پہنچے جیسے حضرت عیسیٰ کو یہود نے سولی دی ان کے منہ پر تھوکا اس سے ناسوت اور لاہوت دونوں کو تکلیف پہنچی اتحاد و حلول کے مسئلے کو تسلیم کرنے پر یہ بات لازمی ہے کیونکہ اتحاد وہ ہے کہ جو ایک چیز کو پہنچے اس میں دوسری چیز بھی شریک ہو اگر ایسا نہ ہو تو یہ اتحاد نہیں بلکہ تعدد ہے۔

عیسائیوں کی یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ انہوں نے خالق ارض و سما کو ایک بشر کے ساتھ متخی کر دیا اسے عورت کے بطن میں پہنچایا اس کے لئے ایک گھر بنا دیا یہی نہیں بلکہ اللہ کی خبیث مخلوق یہود نے اسے پکڑا اس کے چہرے پر تھوکا، اس کے سر پر کانٹے رکھے اور اسے سولی دیدی یہاں ہم عیسائیوں سے ایک سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ لاہوت ان شری

اور خبیث یہودیوں کو جو حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے تھے ہٹانے پر قادر تھا یا نہیں اگر کہیں کہ قادر نہیں تھا تو لازم آئے گا کہ وہ شریعہ یہودی رب العالمین سے زیادہ قادر تھے، اور رب العالمین شریعوں کے سامنے بے بس مقہور و مغلوب تھا یہ تو سب سے بڑا کفر ہے۔ کہ اس سے اللہ کی ذات میں نقص لازم آتا ہے۔

اور اگر کہیں کہ قادر تھا تو سوال یہ ہے کہ ناسوت کی چیخ پکار پر اُس نے اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ جبکہ خود عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ناسوت اس وقت فریاد کر رہا تھا۔ اَللّٰهُمَّ لِمَ تَرَكْتَنِيْ، اے اللہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

## استواء علی العرش

اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو جواب یہ ہوگا کہ وہ آسمان میں ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:  
 اِمَّا مِّنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اِنَّ رَّكِيَا تُمْ لُوْكَ اَسْ سَعِيْ بَعْدَ خَوْفٍ  
 يَّرْسِلْ اَعْلَيْكُمْ حَاصِبًا ط ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں ہے

کہ وہ تم پر ایک ہوا توند بھیج دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دعائیں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کسی چھوٹے بڑے سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو وہ انگلی اوپر اٹھا کر کہے گا کہ وہ آسمان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آسمان نے اس لوندی سے جو آزاد کرنے کے لئے پیش کی گئی تھی سوال فرمایا اَيْنَ اللّٰهُ (اللہ کہاں ہے) تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فِي السَّمَاوٰتِ (آسمان میں) نبی کریم ص نے فرمایا اس کو آزاد کرو یہ مومنہ لوندی ہے۔ اِگر فِي السَّمَاوٰتِ (اللہ آسمان میں ہے) کا جملہ صحیح نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس لوندی کو مومنہ نہ کہتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ فِي السَّمَاوٰتِ کا مطلب فوق السَّمَاوٰتِ (آسمان کے اوپر) ہے کیونکہ فِي السَّمَاوٰتِ کا معنی فوق بھی ہوتا ہے جیسے فَنَسِيحُوا فِي الْاَرْضِ زمین کے اوپر چلو۔

اور اب آگے کوئی اگر یہ سوال کرے کہ کیف ہو؟ وہ کیسا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ کیف (کیسے) سے سوال اللہ کی صفت کے متعلق ہے وہ بلند صفات والا ہے

وہ عالم ہے جس کے پاس علم ہے۔ وہ قادر ہے اس کے پاس قدرت ہے۔ وہ زندہ ہے اس کے پاس حیات ہے۔ وہ ہمیشہ ان صفات میں منفرد رہے گا وہ کسی کے مشابہ نہیں رہے گا وہ کسی کے مشابہ ہوگی۔

اور اگر کوئی سوال اس کی ماہیت کے بارے میں کرے جیسا کہ جہمیہ نے کہا کہ ماہو؟ تو اس سے یہ کہا جائیگا کہ لفظ ماہ سے سوال کسی چیز کی صفت یا جنس کے بارے میں ہوتا ہے تو اگر آپ کے سوال سے یہ مراد ہے تو اس کی صفت علم ہے، قدرت ہے، کلام ہے، عزت ہے، بزرگی ہے۔

اور اگر آپ جنس پوچھ رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ وہ جنس والا نہیں ہے اور اگر (ماہو) سے آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ کرو تاکہ اس کا حواس کے ذریعے ادراک کر لیں تو جواب

یہ ہوگا کہ انسان جو کچھ ادراک کر سکتا ہے حواس کے توسط سے کر سکتا ہے لیکن خدا محسوسات کے دائرے سے باہر ہے اس کے لئے ادراک کا کوئی ذریعہ

اگر (ماہوں) سے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسکی حکمت کے آثار اور اسکی صنعت کے عجائب بتلاؤ تو وہ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اگر ماہوں سے یہ پوچھنا مقصود ہے کہ اس کا نام کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ **هُوَ اللَّهُ** (وہ اللہ ہے)

اگر سوال کیا جائے کہ وہ پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا تو جواب یہ ہے کہ لفظ **(أَيْنَ)** کہاں) یہ مکان (جگہ) کا تقاضا کرتا ہے اور تمام جگہیں مخلوقات ہیں اور سبحانہ تعالیٰ پیدائش اور جگہوں اور مکانوں سے قبل بھی تھا۔ لیکن نہ کسی مکان میں اور نہ کسی زمان میں۔

**هُوَ الْأُولُ وَالْآخِرُ**۔ اول کا مطلب ہے لیس قبلہ شیء اس کے پہلے کچھ نہیں تھا۔ آخر کا مطلب لیس بعدہ شیء اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔

اور اگر یہ سوال ہو کہ اس وقت وہ کہاں ہے تو جواب یہ ہوگا وہ عرش پر مستوی ہے: **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى**۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عرش کا محتاج ہے کہ اگر عرش اس کے نیچے نہ ہے تو وہ گر جائے تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش تو کیا ساری چیزوں سے بے نیاز ہے

وہ اپنی قدرت سے عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ روایت ہے کہ جابلیں عرش کو عرش اٹھانے کی طاقت اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ انہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے کا حکم دیتا ہے۔

امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے تو تھوڑی دیر آپ نے سر جھکایا اور فرمایا: استواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بداعتہ۔ استواء معلوم ہے اور کیفیت نامعلوم ہے اور ایمان اس پر واجب ہے اور اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے اور آپ نے سائل سے فرمایا کہ مجھے تو گمراہ دکھائی دیتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ عرش کہاں ہے؟ تو صحیحین میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ عرش تمام مخلوقات سے اوپر ہے۔

## رُویتِ باری

حدیث میں ہے کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح شمس و قمر کو دیکھتے ہو تمہارے ساتھ رویتِ باری میں سخل نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ لَا تَدْرِي كَمَا الْإِبْصَارُ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں آیت کریمہ میں ادراک کی نفی ہے مگر رویت کا اثبات کرتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رویتِ باری ہوگی ادراکِ باری نہیں ہو سکتا کیونکہ ادراک کا مطلب ہے چیز کا مکمل احاطہ کر لینا۔ ابن عباس یا عکرمہ نے اس آدمی سے جس نے اس آیت کے ذریعہ معارضہ کیا تھا فرمایا تھا کہ کیا تو آسمان دیکھتا ہے اس نے کہا کیوں نہیں؟ پوچھا پورا آسمان دیکھ رہے ہو تو چپ ہو گیا، منکرینِ رویتِ باری یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رویتِ باری کو ممکن تسلیم کر لیا جائے تو اللہ کا کسی جہت میں ہونا لازم آئیگا تو جواب یہ ہے کہ رویت اور معائنہ کے لئے مرنی کا کسی

اب رہا یہ سوال کہ اللہ آتا ہے اللہ اترتا ہے تو اگر اس کے لئے نزول ہے تو لازم آئے گا کہ عرش اس سے خالی ہو جائے، دوسرے یہ لازم آئے گا کہ عرش اوپر ہو جائے اور اللہ (نعوذ باللہ) نیچے ہو جائے۔ تو ائمہ سلف مکحول، زھری، اوزاعی، ابن مبارک، سفیان ثوری، لیث بن سعد، مالک بن انس، شافعی احمد، وغیرہم نے احادیثِ نزول وغیرہ کے بارے میں بالاتفاق یہ فرمایا ہے کہ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہی اسکی تاویل جانتا ہے۔ اس پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس پر ایمان لانا کیسے صحیح ہوگا جس کی حقیقت کا علم ہمیں نہ ہو۔

جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پر بلائکہ پر اور کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت، جنت، جہنم پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سب کا تفصیلی علم ہمیں نہیں ہے۔ کہا یہ جائے گا کہ وہ اترتا ہے اور اس کا یہ اترنا اس کے جلال کے مطابق ہے۔

جہت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً چراغ جلانے کے بعد ہمیں چراغ کی لو دکھانی دیتی ہے جبکہ چراغ کی لو کسی جہت میں نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہہ بیٹھے رَبِّ ارِنِيْ اَنْظُرُ اَيْلَيْكَ ط اے میرے رب تو مجھے دکھائیں مجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب ملا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے یعنی دنیا کی فانی آنکھیں میرے دیدار کی متحمل نہیں ہو سکتیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ رویت باری ممتنع اور محال ہے ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت موسیٰ نے امر محال کا مطالبہ اللہ سے کیا جو سفاہت ہے اور نبی سے سفاہت کا صدور ناممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ہود نے کہا اے میری قوم سفیہ یعنی بیوقوف نہیں ہوں۔ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری کی یہ حدیث مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن مرد اور ہر عورت سجدے میں گر پڑیں گے ہاں جو لوگ دکھانے سنانے

کے لئے سجدے کیا کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ (یعنی وہ سجدہ نہ کر سکیں گے)

## توحید اور شرک

توحید کی ضد شرک ہے جس طرح توحید پر جنت کا وعدہ ہے اسی طرح شرک پر ہمیشہ کے لئے جہنم کی وعید ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ خالص توحید ہی دین فطرت ہے توحید پر شرک کا غبار آہستہ آہستہ جمتا ہے مگر توحید کا ذرا سا چمکا را شرک کی ظلمت پر غالب آجاتا ہے جس سے بدیہی طور پر یہی نکلتا ہے کہ فطرت انسانی کو توحید سے مناسبت ہے ورنہ وہ کیوں اس کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے اور دوسری طرف آہستہ آہستہ کھسکتا ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ توحید داخل فطرت ہے تاہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کہاں سے آتا ہے اگر جزو فطرت نہیں تو یہ بیماری کثیر الوقوع کیوں ہے اسکے لئے تفصیل میں جانے کے بجائے بطور اہل الاصول کے یہ جاننا کافی ہے کہ شرک کے دو سبب ہیں۔ غفلت اور ذنائت، پہلا سبب عقلی ہے اور دوسرا اخلاقی اور یہ دونوں

عدمی ہیں کیونکہ غفلت اسی کا نام ہے کہ انسان خدا کی بخششی ہوئی عقل سے جو بہترین عطیہ فطرت ہے کام نہ لے۔ عقائد میں اوہام باطلہ اور اعمال میں فوائد عاجلہ کی پیروی کرے۔ اور دنائت یہ ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا اور وہ مخلوق یعنی شجر و حجر اور دیگر چیزوں کی بندگی کرنے لگ جائے۔

## قرآن معلم التوحید ہے

آریوں نے اپنی نا سمجھی سے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں شرک کی تعلیم ہے جیسا کہ قرآن کے پہلے پارہ میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ طرفہ یہ کہ شیطان بوجہ توحید کے جو اس کو پہلے سے تعلیم ہوئی تھی سجدہ نہیں کیا تو اس کو مردود گردانا۔ سوال یہ ہے کہ آدم کا سجدہ عبودیت کا تھا یا کچھ اور۔ اگر عبودیت کا تھا تو بے شک قرآن معلم الشکر ہے لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سجدہ جو فرشتوں سے کہہ دیا گیا سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبودت ہوتا تو شیطان اپنی معذوری اور جواب دہی

میں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ط  
دیں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا) نہ کہتا بلکہ صاف صاف اللہ سے یہ کہتا کہ جناب والا یہ کیا انصاف ہے کہ ہمیں ایک طرف تو شرک سے روکا جاتا ہے اور دوسری طرف شرک کی تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ شیطان تو بہت ہوشیار ہے، اسے یہ غدر ضرور ہی سوچنا چاہئے تھا معلوم ہوا کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ محض اس معنی میں تھا جیسے کسی سردار یا نواب و بادشاہ کو ماتحت لوگ ایک خاص وقت میں حاضر ہو کر سلام کیا کرتے ہیں جس میں اس سردار و بادشاہ کی رفعت اور مآختول کی وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے جو شیطان کو پسند نہ آیا۔

## ”لیس کمثلہ شیء“

(اس کے مثل کوئی چیز نہیں)

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے ٹکڑے میں کسی نحو پڑھنے والے طالب علم کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ”کمثلہ“ میں ”کاف“ حرف جار ہے جو تشبیہ کے لئے آتا ہے جیسے ”زید“

انسانیت میں -

(۲) دو چیزوں کا اشتراک اگر وصف لازم ہو تو مشابہت ہے جیسے خالد اور شیر شجاعت میں - اسی طرح تشبیہ اور تمثیل میں بڑا فرق ہے، تشبیہ میں اصلی نگاہ مشبہ اور مشبہ بہ پر ہوتی ہے - اور دونوں کے اجزاء کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں باہم دگرگنتی مطابقت پائی جاتی ہے پھر اسی مطابقت کے لحاظ سے اس سے تشبیہ کا حسن و قبح متعین ہوتا ہے - لیکن تمثیل میں اجزاء کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک صورت واقعہ کو دوسری صورت واقعہ سے تشبیہ دی جاتی ہے ایک صورت حال اور دوسری صورت حال میں پوری پوری مطابقت موجود ہے تو تمثیل مکمل ہے اگرچہ تشبیہ کے وہ تمام ضوابط اس پر منطبق نہ ہو رہے ہوں جو ایک تشبیہ کے مکمل ہونے کے لئے ضروری ہیں -

مولانا عبدالمبین منظر رحمہ اللہ کے طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دھلی گپتی باغ میں طلبہ کچھ دینی مسائل پر بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک آریہ آیا اور

کالاسد (زید شیر کی طرح ہے) تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں اس شبہ کا جواب ہے کہ کاف حرف جار کبھی تشبیہ کے لئے آتا ہے جیسا کہ مذکورہ مثال میں ہے کبھی تعلیل کے لئے آتا ہے جیسے اذکر والذکر کما ہذا کم اللہ کو یاد کرو اس لئے کہ اس نے تم کو ہدایت کی - اسی طرح کبھی تاکید کے لئے آتا ہے اس صورت میں یہ "ک" زائد ہوتا ہے - سورہ اخلاص کی چوتھی اور آخری آیت میں جو لفظ کفو استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہیں نظیر، مشابہ، مماثل، مساوی، ہم رتبہ، اس آخری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات میں کوئی نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اس کی ذات، صفات، افعال، اختیارات میں اس سے مشابہت اور مماثلت رکھتا ہو - شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے -

دار فانی کی کوئی چیز نہیں

ہستی لایزال کی صورت

مشابہت اور مماثلت میں فرق ہے (۱) دو چیزیں ایک فرع میں شریک ہوں تو وہ مماثلت ہے - جیسے زید، عمر،

بولاکہ آپ لوگ خدا کا کلام قدیم مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ ایک وقت ایسا بھی گذرا ہے کہ اللہ موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی؛ سب طلبہ نے اس کا جواب اثبات میں دیا تو اس نے کہا کہ تمہارا اللہ فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیئیؑ (اس کے مثل کوئی چیز نہیں) تو سوال یہ ہے کہ مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے جب خدا کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی تو اس نے کس کے مقابلے کہا کہ میرے مثل کوئی چیز نہیں۔ مثالی مقابلہ تو اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ سامنے دوسری چیز موجود ہو، اس اعتراض سے اس آریہ کا مقصد یہ تھا کہ آریوں کا عقیدہ روح اور مادہ کے قدیم ہونے کا صحیح ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے خالق کے سوا کوئی چیز نہ تھی غلط ہے۔ تمام طلبہ اس سوال کے جواب میں حیران رہے کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ بتاتا مگر جواب فٹ نہ ہوتا۔ مولانا عبدالمبین منظر رح جو اس وقت طالب علم تھے اور وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں تمہارے نزدیک یہ مسلم ہے کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمالیہ کا

جامع ہو ورنہ نقص لازم آئے گا۔ پس اس کی صفت کمال میں سے یہ بھی ہے کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی اسے بھی موجود کی طرح دیکھے جیسے ہم اپنا گھر جو یہاں موجود نہیں دل کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ خالق بہر حال اپنی مخلوق سے افضل اور بے مثل ہوگا۔ پس ہر صورت میں مثلیت باطل اور بس لیس کمثلہ شیئیؑ کا معاملہ صحیح ہوگا یہ جواب سنکر آریہ متحیر ہو گیا اور اس سے کوئی بات نہ بنائی

## امکان کذب باری محال ہے

اگر کوئی شخص امکان کذب باری کے ثبوت میں دلیل پیش کرتے ہوئے یوں کہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ** یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جھوٹ بولنا بھی ایک شے ہے لہذا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور جب وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو جھوٹ بولنا اس کے لئے ممکن ہو جس سے ثابت ہوا کہ مسئلہ امکان کذب الہی حق ہے۔

**جوانب:** اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ اس کو ہم برہان قطعی سے ثابت کر رہے ہیں۔ برہان علم منطلق میں اس قیاس کو کہتے ہیں جو صرف مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو خواہ سب مقدمات بدیہی ہوں یا سب نظری یا بعض بدیہی ہوں اور بعض نظری۔ یوں ہی سب عقلی ہوں یا سب نقلی یا بعض عقلی اور بعض نقلی۔ قیاس کی صورت یوں گی۔

جھوٹ بولنا عیب ہے (صغریٰ) اور ہر عیب اللہ تعالیٰ پر

محال بالذات ہے (کبریٰ)۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جھوٹ بولنا اللہ پر محال بالذات ہے۔ مذکورہ مثال میں مقدمہ اولیٰ یعنی صغریٰ عقلی بدیہی ہے اور مقدمہ ثانیہ یعنی کبریٰ عقلی نظری ہے۔

برہان قطعی سے یہ ثابت ہو چکا کہ اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ اب دوسرے قیاس کی صورت یوں ہوگی۔

اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہے (صغریٰ) اور کوئی محال زیر قدرت نہیں (کبریٰ) نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا زیر قدرت نہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا زیر قدرت نہیں تو اس کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں اور جب ممکن نہیں تو ثابت ہو گیا کہ مسئلہ امکان کذب باری باطل محض ہے۔

شرح عقائد جلالی میں ہے: **الکذب نقص والنقص علیہ محال فلا یکون من الممكنات ولا تشملہ القدسۃ**، یعنی جھوٹ بولنا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے لہذا جھوٹ بولنا ممکن نہیں اور نہ وہ زیر قدرت ہے۔

شرح مواقف میں ہے: **لانہا تختص بالممکنات**

دون الواجبات والممتنعات یعنی قدرت الہیہ ،  
 صرف ممکنات سے متعلق ہے ، واجبات اور محالات  
 سے نہیں اور جب ثابت ہو گیا کہ زیر قدرت صرف  
 ممکنات ہیں تو آیت کریمہ **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**  
 میں "کل شیء" سے مراد کل ممکن ہے جس کا معنی یہ ہوا  
 کہ ہر ممکن زیر قدرت الہی ہے اور چونکہ اللہ کا جھوٹ  
 بولنا ممکن نہیں اس لئے وہ اس کل شیء میں داخل  
 نہیں رہا آیت مقدسہ **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** کا ارشاد  
 تو اس میں کل شیء سے مراد کل مفہوم ہے لہذا  
 اس کل شیء میں واجب ، ممکن ، محال ، قدیم ، حادث ،  
 کلی ، جزئی ، موجود ، معدوم ، مفروض ، موہوم سب  
 داخل ہیں ۔ کیونکہ جہاں تک علم الہی کی بات ہے وہ ممکن  
 واجب ، محال وغیرہ سب کو شامل ہے ۔

جیسا کہ شرح مواقف میں ہے ۔

علمہ تعالیٰ یعم المفہومات کلہا امکانہ  
 والواجبۃ والمستنعۃ فہو اعم من القدرۃ  
 یعنی علم الہی ممکن ، واجب ، محال ، سب کو شامل ہے علم  
 الہی قدرت الہیہ سے عام ہے ۔

واضح ہو کہ مناطقہ مفہوم کی تین قسمیں کرتے ہیں  
 واجب ، ممکن ، محال ۔

واجب : وہ ہے جس کا وجود ضروری ہو جیسے  
 ذات باری ۔

ممکن : وہ ہے جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم  
 جیسے تمام مخلوقات ۔

محال : وہ ہے جس کا عدم ضروری ہو یعنی جو  
 وجود کو قبول نہ کر سکے جیسے شریک باری تعالیٰ

۱۔ جاننا چاہئے کہ واجب یہ اللہ کے اسماء حسنی  
 میں سے کوئی اسم نہیں یہ مناطقہ کا گھڑا ہوا لفظ ہے اسی  
 طرح قدیم و حادث اصطلاح بھی انہیں کی اختراع ہے  
 جلال الدین قاسمی

## معطلہ اور مشبہہ کا رد

معطلہ جو امت کا ایک گمراہ فرقہ ہے وہ ذات باری سے تمام صفات کی نفی کرتا ہے ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ صفات کے انکار سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ سے وجود کی بھی نفی کر دی جائے کیونکہ وجود بھی تو ایک صفت ہے۔ اور اگر آپ ذات باری کو وجود کی صفت سے متصف مانتے ہیں تو دیگر صفات سے انکار کیوں؟

آریوں کا بھی یہی حال تھا جب ان سے توحید کے سلسلے میں گفتگو ہوتی تو فوراً یہ کہتے کہ خدا بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں یہ تو شرک ہو گیا جس کا جواب مولانا ثناء اللہ صاحب امرت سہری رحمہ اللہ نے یہ دیا تھا کہ خدا جس معنی میں موجود ہے اس معنی میں کوئی موجود نہیں اگر کوئی مسلمان اس معنی میں کسی نبی یا رسول کو موجود مانے گا تو مشرک ہو جائے گا۔

خدائے تعالیٰ تو اپنے اصلی اور حقیقی وجود سے اور کائنات کی دوسری چیزیں اس کی ایجاد سے موجود ہیں

اور صرف اتنے ہی وقت تک موجود ہیں جب تک وہ ہم کو موجود رکھے۔ اس لئے ہماری مثال بالکل ٹرین کے ڈبوں اور انجن کی سی ہے۔ انجن حرکت سے متصف ہے اور ڈبے بھی حرکت سے متصف ہیں مگر عقلمند ان دونوں حرکتوں میں تمیز کر سکتا ہے کہ انجن کی حرکت اور ہے اور ڈبوں کی حرکت اور۔ انجن کی حرکت حقیقی اور اصلی ہے اور ڈبوں کی حرکت طفیلی۔ دونوں حرکتوں کو یکساں کہنا کسی عقلمند کا کام نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ موجود ہے بغیر کسی ایجاد کے۔ اور ہم موجود ہیں اللہ کی ایجاد سے۔

## وجود باری پر بحث

قدماء اللہ کے وجود پر اس طرح استدلال کرتے ہیں۔  
العالم متغیرو کل متغیر حادث فالعالم  
حادث۔ کہ عالم تغیر پذیر ہے اور ہر وہ چیز جو تغیر  
کو قبول کرے اور تبدیلی کا محل بنے وہ حادث اور مخلوق  
ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالم حادث و مخلوق ہے اور ہر مخلوق  
کے لئے کسی خالق کا ہونا ضروری ہے اور اسی کو ہم  
اللہ کہتے ہیں۔ اس استدلال پر ایک اعتراض ہوتا ہے  
جس کا حاصل یہ ہے کہ عالم کی تمام چیزیں دو چیزوں کا  
مجموعہ ہیں مادہ، صورت تغیر پذیرہ صرف صورت ہے  
اصل مادہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ عالم کو حادث ماننا صورت  
کے اعتبار سے تو صحیح ہے مگر مادے کے اعتبار سے حادث  
ماننا صحیح نہیں ہے۔ اسطونے اسی اعتراض سے بچنے  
کے لئے استدلال کا دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ یوں  
استدلال کرتا ہے کہ عالم کے تمام اجزاء متحرک ہیں کیونکہ  
اجسام گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور جو شے متحرک ہو ضرور  
ہے کہ اس کے لئے کوئی محرک ہو۔

بوعلی سینا کہتا ہے کہ عالم قدیم بھی ہے اور خدا کا مخلوق

بھی، اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جب عالم اور خدا دونوں  
قدیم اور ازلی ہیں تو ایک کو علت اور دوسرے کو معلول  
کیسے کہا جاسکتا ہے کیونکہ علت اور معلول میں زمانہ کا تقدم  
اور تاخر ضروری ہے۔ جس کا جواب بوعلی سینا نے یوں دیا کہ  
علت کے لئے تقدم بالذات کافی ہے تقدم زمانی ضروری  
نہیں مثلاً کبھی کی حرکت تالے کے کھل جانے کی علت ہے  
لیکن کبھی کی حرکت اور تالے کے کھل جانے میں ایک لحظے  
کا بھی آگیا پیچھا نہیں۔

اس دلیل سے ایک علتہ العلل (cause of the causes)  
کا وجود تو ثابت ہو جاتا ہے لیکن علت کے لئے یہ ضروری  
نہیں کہ اس سے معلول بہ ارادہ اور بہ اختیار صادر ہو۔  
مثلاً آفتاب، روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم  
ہے نہ ارادہ ہے بلکہ روشنی اس سے بلا علم و ارادہ  
صادر ہو رہی ہے۔

ملاحظہ اور مادیین کہتے ہیں کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا  
مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی، حرکت نے امتزاج پیدا  
کیا پھر رفتہ رفتہ قوانین قدرت پیدا ہو گئے۔ وہ کہتے  
ہیں کہ خدا کا وجود وہی اور خیالی ہے اس کے وجود کا

عقیدہ رکھنا سراسر حماقت ہے لیکن ہم یہ سوال کرینگے کہ کائنات میں سیکڑوں لاکھوں قوانین قدرت ہیں ان میں توافق اور تناسب کہاں سے آیا، توافق اور اتحاد خود ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو یہ ایک فرضی احتمال ہوگا جس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور سے کمزور گھاس اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک خاک، ہوا پانی، سے لیکر آفتاب و ماہتاب کے افعال و خواص اس کے پیدا کرنے میں مشارکت اور توافق کو عمل میں نہ لائیں اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جس طرح انسان کے اعضاء و جوارح الگ الگ ہیں اور ہر ایک کا کام جدا جدا ہے لیکن کوئی عضو اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک تمام اعضاء بالذات یا بواسطہ اس کے عمل میں شریک نہ ہوں یا کم از کم اس عضو کے عمل میں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔

## خلاصہ سورہ اخلاص

- (۱) اللہ کے وجود کے منکر کا ابطال لفظ ”ہو“ سے کیا گیا ہے۔ یہ لفظ ذات پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ ہستی جسے قرآن ”اللہ“ سے تعبیر کرتا ہے فی الحقیقت موجود ہے اس کا وجود وہی و خیالی نہیں ہے
- (۲) اللہ کی ذات کے اول ہونے کے منکر کا ابطال لفظ ”اللہ“ سے کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کا لفظ قرآن میں صرف اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جو رب العالمین ہے یعنی ساری کائنات کا خالق، رازق، منتظم، مالک اور ہر شے کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے اس سے ثابت ہوا کہ ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ اس کا تنها خالق ہے۔
- (۳) منکر توحید کا ابطال ”احد“ سے کیا گیا ہے یعنی اللہ ایسا ”ایک“ ہے کہ اس جیسا دوسرا نہیں ہے یعنی یکتا لا نظیر له ولا مثیل له و لا شریک له ہے۔

(۴) مشرک فی الصفات، مشرک فی العبادات، مشرک فی الاستعانتہ اور مشرک فی الحکم ان چاروں گروہوں کا ابطال لفظ "صمد" سے کیا گیا ہے۔

(۵) قائلین ابنیت (اللہ کے بیٹا یا بیٹی ہے) کا ابطال "ولم یلد" سے کیا گیا ہے۔

(۶) معتقدین الوہیت (فلاں شخص اوتار ہے جیسے ہندو رام کرشن وغیرہ کو اوتار مانتے ہیں) کا ابطال "ولم یولد" سے کیا گیا ہے۔

(۷) معتقدین مماثلت (فلاں شخص یا ہستی بھی خدا ہے یا اس کی ہمسر ہے)

کا ابطال "ولم یکن لہ کفوًا احدًا" سے کیا گیا ہے۔

قارئین کرام خوب غور سے دیکھ لیں انکار یا

شُرک کی یہی تذکرہ بالا صورتیں ہیں جو نزول قرآن کے وقت دنیا میں پائی جاتی تھیں کتاب اللہ کی اس مقرر سورہ کا اعجاز غور طلب ہے کہ دو سطروں میں سارے جہاں کے عقائد باطلہ کا رد کر دیا ہے۔

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ

## علم کے ثنائتین متوجہ ہوں

(۱) اسلام میں عورت کا مقام

(۲) اسلام سے پہلے عورت کا حال دار

(۳) اسلام میں چار شادیوں کی اجازت کیوں

(۴) صرف چار ہی عورتوں پر انحصار کیوں پانچ یا چھ پر کیوں نہیں۔

(۵) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے چار سے زائد بیویوں کی اجازت کیوں

(۶) فیملی پلاننگ اور عزل میں فرق

(۷) کیا عورت مانع حمل دوائیں استعمال کر سکتی ہے اور

لوپ وغیرہ بھجوا سکتی ہے یا نہیں۔

(۸) عورت کا پردہ کہاں سے کہاں تک ہے؟

(۹) مرد عورت کے قوام کیوں؟

ان جیسے بہت سے اہم اور اچھے ہوئے سوالات کا حل

معلوم کرنے کیلئے مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کے نوک قلم

سے نکلنے والی روشن تحریر ”عورت اور اسلام“ نامی کتاب میں ملاحظہ

فرمائیں اپنے موضوع پر منفرد کتاب، سطر سطر فکر انگیز۔